

اِنْ مَجِيْبُ الْمَضْطَرِّ اِذَا نَعَاہُ وَیُکْشِفُ السُّوءَ (النَّبِیُّ)
 جہاں کوں بے قرار کی انتظار آتا ہے جب اس سے دعا کرتا ہے اور (کوئی) اس کی تکلیف نہ کرتا ہے۔

اضافہ شدہ ایڈیشن

وظائف الصالحین

گھریلو پریشانیوں، الجھنوں اور بیماریوں کیلئے
 مجربات کا نادر ذخیرہ

مؤلف

(مولانا) حافظ اقبال قریشی
 روحانی معالج

پہنل فرمودہ

مولانا ابوالقاسم نعمانی مدظلہ
 مہتمم دارالعلوم دیوبند انڈیا
 مولانا محمد سلمان الحسنی مدظلہ
 والما شیخ الحدیث مولانا ذکریا نور اللہ مرقده
 ناظم جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور انڈیا
 الشیخ عبدالرحمن الشیبی مدظلہ
 کلید بردار کعبۃ اللہ
 مولانا محمد علی حجازی مدظلہ
 شیخ حرم بیت اللہ

مکتبہ شہید اسلام

متصل مرکزی جامع مسجد (لال مسجد) اسلام آباد

0321-5180613

Email: saaleheen@gmail.com

فہرست عنوانات

نمبر شمار	تفصیل	صفحہ
1	مقدمہ	16
2	پیش لفظ	17
3	تاثرات	19
4	اسماء الحسنیٰ مع معنی اور فضائل	24
5	منزل	53
6	قرآن پاک کی سورتوں کے فضائل	64
7	درود شریف سے مشکلات کا حل	87
8	درود شریف کی فضیلت و برکات	88
9	حضور ﷺ کی شفاعت واجب ہو جائے	89
10	مال میں برکت ہوگی	90
11	امام شافعیؒ کا اعزاز	90
12	ہر مصیبت سے نجات کیلئے	91
13	حضور ﷺ نے خصوصی اکرام فرمایا	92
14	شوہر کے قلم اور تنگ دستی سے حفاظت کیلئے	92
15	مقبولیت عامہ اور تسخیر قلوب کیلئے	93
16	دل کی گھبراہٹ اور بلند پریشانی کیلئے	93
17	باغات اور فصلوں کو بیماریوں سے بچانے کیلئے	94
18	ادائیگی قرض کیلئے	94

95	مستقل مزاجی پاکیں اور تصبیح اوقات سے بچیں	19
95	آنکھ کی جملہ تکالیف اور بینائی تیز کرنے کیلئے	20
96	ہر قسم کے درد اور لاعلاج بیماری کیلئے	21
96	قرض سے محفوظ رہنے کیلئے	22
96	موذی جانوروں سے حفاظت کیلئے	23
97	اولاد کی کامیابی اور عزت کیلئے	24
97	آسی سال کے گناہ معاف اور اتنی سال کی عبادت کا ثواب	25
97	سب سے افضل حمد اور درود شریف	26
98	ایک عظیم نیکی کے لکھنے میں فرشتوں کا اللہ سے رجوع کرنا	27
99	اس کا ثواب ستر فرشتوں کو ایک ہزاروں تک مشقت میں ڈالے گا + صلوٰۃ الحاجت	28
100	متفرق وظائف	29
101	جادو کا علاج	30
102	دوسری قسم جادو چلنے کے بعد جادو کا علاج	31
102	وہ کلمات جنکے روزانہ پڑھنے سے جادو اثر نہیں کرتا	32
103	جادو کے توڑ کیلئے جامع دعائیں	33
104	جادو وغیرہ کا اثر ختم کرنے کیلئے	34
104	دل کی گھبراہٹ کیلئے	35
105	دل گھبراہٹ کیلئے (ہولہ لی)	36
105	دل کے دورے کا علاج	37
105	دل کی تکلیف کیلئے	38
105	دل کی بیماری دور کرنے کا نبوی نسخہ	39

106	دل کی ہر بیماری کیلئے مجرب نسخہ	40
106	اگر بدن میں کسی جگہ درد ہو	41
106	ہلڈ پریش کیلئے	42
107	جملہ قسم کے یرقان کیلئے	43
107	جگر کی بیماری کیلئے	44
107	دفع درد جگر کیلئے	45
107	معدہ کی کمزوری کا علاج	46
108	درد سینہ کا علاج	47
108	ذیابیطس کے مریض کیلئے روحانی علاج	48
108	شوگر کے مریضوں کیلئے ایک اور دوا	49
109	تلی بڑھ جانے کا علاج	50
109	ناف ٹل جانے کا علاج	51
109	پیٹ کے درد کا علاج	52
109	پیٹ کے ہر قسم کے درد کیلئے	53
110	بد ہضمی کا علاج	54
110	بھوک کی کمی کا علاج	55
111	زبان کی لکنت کا علاج	56
111	منہ کے چھالوں کا علاج	57
111	دفع بلغم	58
111	فالج کا علاج	59
111	پتھلی کا علاج	60

112	گردے اور پتے کی پتھری کا علاج	61
112	آپ مریض ہیں تو یہ عمل کریں	62
113	پیشاب بند ہو جانے اور پتھری کیلئے دعا	63
113	درد سر کا علاج	64
114	دہشت اور گھبراہٹ کیلئے	65
114	تین بیماریوں سے عافیت	66
115	ہر مرض اور ہر درد کیلئے	67
115	کان بھنج جانے کے وقت کی دعا	68
115	جٹے ہوئے پر یہ پڑھ کر دم کرے	69
116	چہرے اور پشت کے مسوں کا علاج	70
116	چہرے کے کیل مہاسوں کا علاج	71
116	درد چشم	72
117	آنکھ دیکھنے کی ایک اور دعا	73
117	الرجی اور ہر قسم کے دانوں کا علاج	74
117	قدرت جماع	75
118	ایک مجرب عمل	76
118	جریان کا علاج	77
119	کثرت احتلام کا علاج	78
119	آتشک اور سوزاک کا علاج	79
120	برائے قرار حمل	80
121	استقامت حمل کا علاج	81

122	برائے اولاد فریہ	82
122	اولاد فریہ کیلئے	83
123	اولاد کیلئے	84
123	حیض کی کمی اور درد کا علاج	85
123	کثرت حیض کا علاج	86
124	بچوں کی بدتمیزی کا سبب اور اس کا علاج	87
124	حالت مرض کی دعا	88
124	ڈاڑھ اور کان کے درد کیلئے عمل	89
125	بیمار کی شفا کیلئے	90
125	غیندہ آنے کا مجرب علاج	91
125	مقررہ وقت پر بیداری کا خاص عمل	92
126	اچھا رشتہ ملنے کیلئے اہم دعائیں	93
126	بیٹے یا بیٹی کی شادی مبارک ہو	94
126	بیٹا عالم فاضل اور ذہین ہو	95
127	عزت وقار اور نام پیدا کرنے کیلئے	96
127	امتحان میں آسان پرچوں کیلئے	97
127	مقدمہ میں کامیابی کیلئے	98
128	فصد دفع کرنے کیلئے	99
128	بیٹے اور بیٹی کیلئے رشتہ نصیب ہو	100
128	اولاد کا مطہج ہونا	101
128	زوجین میں محبت کیلئے	102


129	برائے حسب	103
130	عمل برائے تسخیر	104
132	لاعلاج مرض کیلئے	105
132	چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت کیلئے	106
132	خالم پر غلبہ حاصل ہو	107
132	ذہن اور حافظہ قوی ہو جائے	108
132	حصول شفا کیلئے قرآنی وظیفہ	109
133	شوہر کی ناراضگی دور کرنے کیلئے	110
133	دعا کی قبولیت کیلئے	111
134	دافع پریشان خوانی کا عمل	112
134	حصار کی ترکیب	113
134	چہرے اور پشت کے مسوں کا علاج	114
135	چہرہ خوبصورت ہو جائے	115
135	پھوڑے پھنسی کا تیر بہدف علاج	116
135	چہرے کے کیل مہاسوں کا علاج	117
136	دافع دھبوں کا علاج	118
136	قالج، لقوہ اور شیطانی سے حفاظت کیلئے	119
136	گو یا والدین کا حق ادا کر دیا	120
137	یا لطیف کا عمل	121
139	بسم اللہ کا عمل	122
139	سورہ اخلاص کا مجرب عمل	123

139	سورہ فاتحہ کا مجرب عمل	124
140	سحر کا مجرب علاج	125
140	عمل آیت الکرسی	126
140	دل کی غفلت دور کرنے اور ہدایت پانے کیلئے	127
141	دشمنوں اور ظالموں سے حفاظت کے اعمال	128
141	سورہ قمریش کا عمل	129
141	ایک مسنون دعاء	130
141	ایک آیت کریمہ کا عمل	131
141	اللہ الصمد کے خواص	132
143	رحمتوں والے اعمال	133
144	ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں	134
145	مجلس کے خاتمہ پر مبارک دعا	135
145	ابداں بننے کا نسخہ	136
146	مشکلات آسان ہو جائیں	137
146	حضرت شیخ بوئیؒ کا ایک خاص خاص عمل	138
147	قید سے رہائی کا عمل	139
147	ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں	140
147	بے بسی ختم ہو اور کام جلد ہی ہو	141
148	عظیم الشان و نفیس	142
148	اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمات	143
149	دشمن سے حفاظت کیلئے	144

145	مال کا گم ہو جانا	149
146	مغرور کی واپسی	151
147	مکان کی حفاظت کیلئے	151
148	برائے ہر مشکل	152
149	مردہ یا زندہ کو خواب میں دیکھنا	152
150	برائے حاجت	152
151	حادثات سے بچنے کا وظیفہ	153
152	قنوت نازلہ	154
153	تمام دن ظالموں کے شر سے محفوظ رہیں	156
154	حضرت انسؓ کی دعا	156
155	دعاء امام ابو حنیفہؒ برائے قرب الی اللہ	157
156	اگر کوئی برے افعال کا شکار ہو جائے	157
157	عزت و عظمت میں اضافہ کیلئے	157
158	عزت پانے کیلئے	158
159	تمام پریشانیوں کیلئے اکسیر	158
160	نماز مغرب کے بعد یہ پڑھے	158
161	نماز عشاء کے بعد یہ پڑھے	159
162	جو مانگے وہ عطاء ہو	159
163	بڑا نور حاصل کرنے کیلئے	159
164	موت کے سوا ہر چیز سے امن	160
165	جمعہ کی نماز کے بعد گناہ معاف کروانے کا ایک نبوی نسخہ	160

160	حصول ملازمت کیلئے سورہ والنجم کا خاص عمل	166
160	لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو یا آتا ہو مگر پسند نہ آتا ہو	167
161	سانپ بچھو کے کانے کا علاج	168
161	شب قدر کی پہچان کا طریقہ	169
161	ہر سال حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کیلئے خاص عمل	170
162	برائے زیارت نبی کریم ﷺ	171
162	آیت قطب کے عجیب و غریب اوصاف	172
163	دعا کی قبولیت کیلئے مجرب عمل	173
163	ونظیفہ خاص حضرت شاہ ابراہیم الحق	174
164	نظر بد دور کرنے کا مسنون و نظیفہ	175
164	خیر و برکت کیلئے	176
165	کشائش رزق کیلئے	177
165	جنسی تعویذ	178
166	شب قدر کے برابر ثواب	179
167	چار کلمے بہت بڑھے ہوئے ہیں	180
167	ذاتی مکان اور وسعت رزق کیلئے	181
167	اولاد دینے اور حفاظت حمل کیلئے	182
169	رزق میں برکت اور حاجات کیلئے اعمال	183
170	عمل سورہ مزل شریف	184
171	برائے ادائیگی قرض	185
171	روزی میں برکت کیلئے نبوی تسبیح	186

171	الْمُعْطِينَ بِرِزْقِ اللَّهِ كَأَسْرَعَ الْأَعْمَالِ	187
171	اللَّهُمَّ اكْفِنِي الْمُسْكِنِينَ وَالْمُسْتَكِينِينَ وَاجْعَلْ لِي مَجْرِبَ عَمَلٍ	188
172	ایک اکسیر عمل	189
172	سورہ فلق کا جواب عمل	190
172	یا غنی یا مغنی کا مجرب عمل	191
172	روزہ کا اصل لا اصل عمل	192
172	روزہ میں فراخی کیلئے مجرب ترین تر پھلا	193
173	روزہ میں برکت کا ایک فطری عمل	194
173	برائے ترقی رزق	195
174	مالی ترقی کیلئے دعا	196
175	جناب حافظ اقبال قریشی کا انٹرویو	197
178	پرنسپل جامعہ ام حبیبہ کے قلم سے	198
180	علمی شجرہ / تفسیر و حدیث کی سند	199
181	شجرہ برائے تصوف (صندل بابا)	200



Dr. Sher Ali S

الدكتور شیر علی شاہ المدنی

الدكتور (بمرتبة الشرف الأولى)
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وعضوها
المستشار بالجامعة دار العلوم الحجازية (أكوثر بنك
القسم سرحد - باكستان

التعليم

الحمد لله وكفى وسئلكم على مباركة الذبيحة الصلوات

[illegible]

دارت: اہی میں دست پر جاموں کو دے دیا اور اس کو ہم قریبی حبیب کے اس عزیز، وسیع تحفہ
کو شریف بہرہ بخشا، اور ہم طالع مصلحت کو اس گنجینہ ادوات، حرکات سے استفادہ کی توقع تھی۔
وہ اس وقت تھی کہ میں پختی و جہیز علی الصبیح ^{۱۲۸۵} ہجری ۱۲۸۵ میں ہندوستان کو گئے۔
۱۲۸۵/۶/۲
کے سرپرستوں کا لکھا
خادم اعلیٰ الصبح بامعاری و حسن چاہے، انور و ملک

جامعة دار العلوم خطابه اکبر و ختگ، خلق لور شهره، صوبہ سرحد، پاکستان

Jamia Danul Ulloom Haqqania Akora Khattak, Distt: Newshera, N.W.F.P. Pakistan

Mufti Hameedullah Khan

Chairman Darul Uloom

AL JAMIATUL ASHRAFIA

Shahrah-e-Ferozpur, Lahore - Pakistan

Tel #: 042 - 7531881

Cell #: 9333 - 4241816



المفتي حميد الدين خان

رئيس دارالافتاء
الجمعة الاشرفية

شماره تماس: ۷۵۳۱۸۸۱
۰۴۲-۷۵۳۱۸۸۱
۰۳۳۳-۴۲۴۱۸۱۶

پیشہ تواری

Date _____

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اُمّ الامت مسلمہ مختلف مصائب کا شکار ہے۔ مہاجر و ہجرت کی وجہ سے

اور باطنی و ظاہری کے مصلوح کیلئے فکر مند رہتے ہیں۔

جانب دیگر اس مسئلہ کی اصلاح کرنی ہے۔ وظائف الصالحین ہے جو ان کی فطرت پرستی اور

عالمگیرین کے عبادت کو یکجہ کر کے امت پر احسان فرماتا ہے۔ ان کے اس عہد کو

قبول فرما کر ذخیرہ آخرت بنادے آمین ثم آمین۔

فقط
محمد رفیع الرحمن
خادم الکتاب و الفتا
جامعہ اشرفیہ لاہور

Khateeb:
Central Mosque Islamabad,
Government of Pakistan



محمد عبدالعزیز
خطیب مرکزی جامع مسجد اسلام آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ -

دعا۔ کہ قرآن و حدیث سے اپنے فرائض میں
دعا جہاد ہے دعا اپنے محبوب اللہ عزوجل
کہ اللہ جل جلالہ کا پیار ہے اور یہ ہے دعا تمام مسلمانوں
کا شریعت حلال ہے دعا ہے پریشان دلوں کو سکون ملنا
دعاؤں اور وظائف پر عزم و ایمان جو خدا تعالیٰ کے سامنے اپنی
نعمتیں یاد رکھ کر کرتے ہیں وہ دعا ہے اللہ عزوجل
اسکو آزمائشوں میں مبتلا نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے نفع کا باعث بنے کہ جن نعمتوں
پر اس نے ارادت کی
طبیعی طور سے
اجادی انہی سے

[illegible]



دارالعلوم حنفیہ عثمانیہ



محلہ درکشاپلی راولپنڈی شہر، نون: 1969
5559269

DAR-UL-ULOOM HANFIA USMANIA (Regd)

تاریخ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محرمہ و فضلی علی رسولہ الکریم
حمد و ثنا اس ذات کی جس نے مائے خاتم عالم کو وجود بخشا اور
مخلوق کی ہدایت کیلئے کتاب کو نازل فرمایا اور بے شمار درود و سلام
اسی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجے دنیا میں حق کا بول بالا کر دیا اور
اسکو دنیا میں بھیج دیا۔

یہ کتاب دو وظائف الصالحین، ۱۔ مومنانہ حافظہ محمد امین قریشی
قابل قدر محنت کے امور سلوک کو قرآنی و سنت کی روشنی میں خوب
سے خوب تر و واضح کیا ہے اسما و الحنفی کے فضائل اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی مسنون دعائیں و وظائف و عملیات پر بھی خوب محنت کی احقر کی دعا ہے کہ اسکا فیض
عام ہو مخلوق خدا نفع حاصل کرے ناز و نیاز اس میں ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت کے طرز عمل
کو اپنائے رکھیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے مصنف
کے علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی الامی الکریم
دعا گو۔ قاری محمد خدوق مدنی معلم نیکو مسعود
اسلام آباد

Muhammad Amir Siddiq

Naib Khateeb
Central Mosque Islamabad
Government of Pakistan
Mob: 0307-6222439



محمد عامر صدیقی

نائب خطیب دار عمامہ
مرکزی جامع مسجد (لال مسجد) اسلام آباد
موب: 0307-6222439

Ref: _____
Date: _____

موضوع: _____
تاریخ: _____

عالم کے مشہور محقق و مفسر مولانا مفتاح قلی خان نے وظائف العیاشیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ
مستند نے وظائف العیاشیہ کے مستند موضوع کو مختلف ممالک سے سرکاری طور پر دیکھا
ماشاء اللہ خوب محنت سے مستند اولاد و وظائف جمع کئے گئے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں
کہ فرقہ کرم امدادیت بلکہ کے وظائف کو یحییٰ کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر اس کی تاثیر مثبت
کے بغیر دیکھ کر عظمیٰ ہو کر رہتی ہیں اس طرح فرقہ کرم امدادیت بلکہ میں جو دوسرے فرقے شامل
ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوب تاثیر رکھی ہے امدادیت کی تاریخ اس کے برائے ہوئے کی گواہ ہے
یعنی وظائف مولانا کی امدادیت سے پرستار حال اور سائل کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میں نے بھی رائے
جس سے لوگوں کو انتہائی فائدہ ہوا۔ اس لحاظ سے مولانا کو میرے استاد ہونے کا درجہ حاصل ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنے دہرہ عالی میں قبول فرمائے امدادیت
بھی اس کو ذریعہ ہدایت و نفع بنادے آمین

محمد امیر صدیقی

۱۵ مارچ ۱۴۴۰ھ

مقدمہ

ہر علم و فن کیلئے استاد کی ضرورت ہے دنیا میں جس قدر علوم و فنون پائے جاتے ہیں ان کے سیکھنے کیلئے ہم استاد کے محتاج ہیں علم و فن کی بینکوں کی کتابیں ہیں اور علم تصوف اور روحانیت پر جو کتابیں مرتب ہوئی ہیں ان کا بھی بڑا ذخیرہ ہمارے یہاں موجود ہے خصوصاً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی و حضرت امام غزالی و حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی جیسے عظیم المرتبت بزرگوں نے اس موضوع پر کتابیں لکھ کر درحقیقت امت مسلمہ کی رشد و ہدایت اور فلاح کا کافی معتبر مواد جمع کر دیا ہے مگر اصلاح نفس کیلئے پیر و مرشد کی ضرورت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا بہر حال کتابوں کے مطالعہ میں عام طور پر کوئی عالم نہیں بن جاتا عالم فاضل بننے کیلئے ہمیں لازماً کسی درگاہ میں پہنچ کر استاد کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ عملیات کے سلسلے میں بھی ہمارے نیک باعمل اسلاف نے عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں اور اس موضوع پر بھی کافی ذخیرہ موجود ہے مگر ان سے استفادہ کیلئے بھی اچھے استاد کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بطور خود کوئی وظیفہ پڑھنا اور بغیر اجازت چلہ کشی کرنا ویسے بھی خطرہ سے خالی نہیں ہے قدیم زمانہ سے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے جب طالب علم نے کسی فن کی کتابیں اول تا آخر پڑھ لیں اور دوسروں کو تعلیم دینے کا جذبہ رکھتا ہے تو اسے اپنے شیخ سے باقاعدہ اجازت حاصل کرنی پڑتی ہے اسی طرح کسی سے روحانی سلسلہ میں بیعت ہونے کے بعد آگے دوسرے لوگوں کی رہنمائی کیلئے مرشد سے اجازت لینی پڑتی ہے اگر مرشد اسے اجازت دے دے تو وہ مجاز اور خلیفہ کہلاتا ہے۔

عملیات کا فن جس کا خانقاہی زندگی سے ایک خاص رابطہ تھا استاد اور مرشد کی اجازت کے بغیر کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا تھا لیکن افسوس اب نئی نسل کے عالمین کو ان تکلفات کی ضرورت نہیں رہی آج ہر شخص بے لگام ہے اسے کسی استاد کی ضرورت نہیں وہ خود اپنا استاد ہے جس کا دل چاہتا ہے خود ساختہ عامل بن بیٹھتا ہے نہ اسے کسی استاد کے پاس جا کر سیکھنے کی حاجت رہی

اور نہ محنت مشقت برداشت کرنے کی اور نہ چلہ کشی کی اور نہ ان ضرورتوں کو محسوس کرتا ہے اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ایسا شخص جو عامل بھی نہیں ہے بلکہ خود کتابوں کا مطالعہ کر کے تعویذ لکھ کر لوگوں کو دینا شروع کر دیتا ہے اور عامل کہلاتا شروع کر دیتا ہے عملیات کی اصل بنیاد قرآن حکیم کی سورتیں اور آیات اور حضور ﷺ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جو عبادوں اور نقوش کی شکل میں احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔

عملیات کے میدان میں قدم رکھنے والے کیلئے جن علوم کی ضرورت ہے ان میں سب سے اہم علوم عربیہ سے واقف ہونا ہے کیوں کہ عملیات کا ایک بڑا ذخیرہ عربی میں ہے اس کے علاوہ عامل کو علم نجوم اور ستاروں کی حرکات کا بھی علم ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اہم چیز جو عامل کے عمل میں تاثیر پیدا کرتی ہے وہ تقویٰ اور اتباع سنت ہے۔

ابو عبد اللہ حافظ اقبال قریشی

۱۲ ربیع الاول ۱۳۳۰ھ

پیش لفظ

انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر ضعیف پیدا کیا ہے یہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کا نافرمان بھی بن جاتا ہے اگر انسان کو اللہ اور رسول ﷺ کی تعلیمات سے آگاہی نہ ہو تو وہ بہت جلد صراطِ مستقیم سے ہلک سکتا ہے۔ میں نے بھی سکول کی تعلیم کے بعد دعوتِ تبلیغ میں وقت لگایا اور پھر حافظ اور عالم بننے کی خواہش پیدا ہوئی اور پھر حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی پھر عالم کا کورس استاذ العلماء مولانا زین العابدین مدظلہ سے مکمل کیا اور روحانی علم کی جستجو میں سفر شروع کئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور والدین کی دعاؤں سے بہت قلیل عرصہ میں مجھے مرشد کامل بھی مل گئے۔ اور مفتی عزیز الرحمن صاحب سے نسبت قائم کی اور انہوں نے ۵ چلے کروائے اور پھر سورہ مزمل کے چلے کے ساتھ بائوکل اجازت عطا فرمائی۔ کتاب پر مؤکل کی حاضری کا علم انہی سے سیکھا اسکے علاوہ بچہ کے انگوٹھے میں مؤکل کی حاضری و کپڑے پر عمل کرنا اور تسبیح پر عمل بھی میں نے مختلف عاملوں سے سیکھا حال میں جاگام کی پہاڑیوں پر مصروف عبادت

۱۳۲ سالہ ولی اللہ پیر کامل المعروف صندل بابا سے بھی اجازت حدیث اور اجازت و تحائف حاصل کی اس سب کے ساتھ میرا مقصد علاقہ میں علوم قرآن و سنت کا احیاء ہے جسکے لئے خواتین کا مدرسہ جامعہ ام حبیبہ کا آغاز کیا جس میں بیٹھکروں خواتین نے علم حاصل کیا اور کر رہی ہیں اور جامع مسجد محمدیہ میں خطابت کے فرائض بھی سرانجام دے رہا ہوں اور مزید مدرسہ اور مسجد کی تعمیر کا بھی ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاونین پیدا فرمائیں۔

میں یقین سے کہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے آج ہم بے شمار مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جن میں اولاد کی نافرمانی گھریلو ناچاقی، جسمانی و ذہنی بیماریاں اولاد کے اچھے رشتے نہ ہونا، جادو اور جنات کے اثرات اور لاعلاج بیماری کا آجانا، گھر میں خون یا پانی کے چھینٹے آنا الماری میں رکھے ہوئے کپڑوں میں کٹ لگ جانا گھر سے رقم کا چوری ہو جانا یا گھر میں آگ کا بھڑک اٹھنا یہ جناتی یا جادو کے اثر کی ابتدائی علامات ہیں ان کا حل کسی عامل قرآن و سنت سے ضروری ہے۔ اس کے علاج کیلئے بدعتی اور بدعتیہ کالے جادو کے عاملوں کے پاس جانا ایمان سے محرومی کی علامت ہے الحمد للہ مجھ سے شفا یاب ہونے والے بے شمار مریضوں (جن میں سے اکثریت بیرون ملک مقیم ہے) نے بار بار خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اپنے اساتذہ اور بزرگوں کے مجربات کو کتابی شکل میں شائع کریں تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے اس ضرورت کے پیش نظر کہ تمام اہل ایمان اس سے فائدہ اٹھائی اور تحائف پڑھنے والے اجازت کے ساتھ اس کتاب کا کوئی بھی وظیفہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس کتاب کے پڑھنے والوں، ان و تحائف کرنے والوں سے گزارش ہے کہ جہاں اپنے لئے دعا کریں وہاں میرے لیے اور میری والدہ مرحومہ کیلئے بھی خصوصی دعا کریں۔

حافظ اقبال قریشی نقشبندی

جامعہ ام حبیبہ مورگاہ راولپنڈی پاکستان

Cell: +92-300-5802404

E-mail: saleheen@gmail.com

طارق نصرت وانی اسلام آباد

حافظ اقبال قریشی عامل باعمل اور داعی الی اللہ ہیں اور اس فتنہ کے دور میں جب ہر طرف بدعات اور جادو ٹونے اور شیطانی کے پیروکار عام عمل میں مصروف ہیں اور ہر شخص شدید پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے اور لوگ جعلی عاملوں اور شعبہ بازوں سے پریشان ہیں اور ہر بیماری اور پریشانی سے نجات کیلئے انسان مختلف حیلے بہانے کرتا ہے۔ ایسے وقت میں حافظ اقبال قریشی صاحب کی یہ کتاب قرآن پاک کی آیات کے ذریعے پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کیلئے بہترین رہنما ہے جس میں ہر بیماری اور الجھن کے حل کیلئے قرآن و سنت سے مواد اکٹھا کیا گیا ہے۔ میں نے خود بھی کئی مرتبہ اپنے دوست احباب کے مسائل پر حافظ صاحب سے عمل کرایا الحمد للہ باعمل عامل اور قرآن و سنت کی برکت سے تمام احباب کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے حل فرمائی ہیں۔ اور میرے گھر سے جناتی اثرات انہی کے عمل سے ختم ہوئے۔ ان کی اس بابرکت کاوش پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کیلئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انکو مزید ترقی عطا فرمائے۔

طارق نصرت وانی

سابق سینئر نائب صدر جمییر آف کامرس

اسلام آباد

سعد حسین شاہ لندن

حافظ اقبال قریشی صاحب سے میرا رابطہ 2009ء میں ہوا جب میں ایک شدید الجھن میں مبتلا تھا۔ میرے گھر میں جادو کے ذریعے جنات چھوڑے گئے تھے۔ جنہوں نے میری اور میرے بیوی بچوں کی زندگی اجیرن بنائی ہوئی تھی۔ بے شمار عالموں سے میں نے علاج کرایا لیکن افادہ کی بجائے تکلیف بڑھتی رہی۔ میرے ایک دوست حسین رضا صاحب جو بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں وہ حافظ اقبال صاحب کو اپنا پیرومرشد مانتے ہیں۔ جب وہ انگلینڈ آئے اور میرے حالات کا ان کو پتہ چلا تو انہوں نے حافظ صاحب کا نمبر دیا۔ میں نے حافظ صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں اپنی پریشانی بتائی تو انہوں نے میرا اور میری والدہ کا نام اور ایڈریس لے کر الحمد للہ تین دن میں میرے گھر سے جنات نکال دیے اور جادو کا اثر ختم کر دیا۔ میں اور میرے گھر کے تمام لوگ انکے احسان مند اور معتقد ہیں اللہ انکی کاوشوں اور اخلاص اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔

سعد حسین شاہ

برٹل روڈ لندن

ڈاکٹر منزل شاہ کراچی

میر حافظ اقبال صاحب سے تقریباً دو سال سے تعلق ہے۔ میری بیوی پر جناتی اثرات تھے جن کی وجہ سے ہماری شادی کو دس سال گزرنے کے باوجود ہمارے ہاں اولاد بھی نہ ہو رہی تھی۔ مجھ سے صاحبزادہ نعیم شاہ صاحب نے ان کا تعارف کرایا اور پھر میں ان کے پاس مدرسہ ام حبیبہ، مورگاہ راولپنڈی حاضر ہوا۔ میں بے شمار عاملوں کے پاس سے علاج کراچکا تھا اور عاملوں سے متنفر تھا لیکن حافظ صاحب کو میں نے نہایت منکسر المزاج اور سنت کا پابند پایا میں ان سے بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے میرے سامنے کتاب پر مؤکل کو حاضر کیا اور میرے اور میری بیوی کے بارے میں سوال کیا۔ ایک طرف سے حافظ صاحب نے کتاب کو پکڑا اور دوسری طرف سے میں نے۔ جب آپ نے مؤکل سے میرے بارے میں سوال کیا تو کتاب بائیں کو تیزی سے گھوم گئی جو کہ نفی میں جواب کا اشارہ تھا لیکن جب میری بیوی پر جناتی اثر کا سوال کیا تو کتاب تیزی سے دائیں کو گھوم گئی جو اثبات کا اشارہ تھا۔ الحمد للہ میری بیوی سے جناتی اثر ختم ہوا اور اللہ نے ہمیں ایک بیٹا بھی عطا کیا ہے اور حضرت کے پاس بیٹا ٹائٹس، شوگر، بخار اور درودل وغیرہ کے خاتمے کے اذن بھی ہیں۔ جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اللہ انکی صلاحیتوں سے ہمیں مستفید فرمائے۔

ڈاکٹر منزل بٹ

کلکتہ، نغم آباد کراچی

محمد الطاف خان امریکہ

روحانی علوم کے ماہر اور معروف مذہبی و روحانی سکالر حافظ اقبال صاحب سے میرا تعارف 1995ء سے ہے اور الحمد للہ میں نے ان کو عامل باعمل پایا اور اپنے اور اپنے جاننے والے بے شمار لوگوں کیلئے ان سے عمل کرایا الحمد للہ انکے عمل میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی ہے۔ امریکہ میں رہائش پذیر میرے ایک دوست کی بیٹی پر جناتی اثرات تھے حافظ اقبال صاحب نے یہاں سے عمل کر کے کئی سالوں سے موجود اثرات ہمیشہ کیلئے ختم کر دیے۔ میں نے ان کو وظائف و عملیات پر ایک کتاب لکھنے کا مشورہ دیا تھا اور انہوں نے مہربانی فرماتے ہوئے میری یہ درخواست قبول فرمائی اور یہ کتاب بڑی محنت شاقہ کے بعد ترتیب دی جو کہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کتاب میں آیات قرآنی کے ذریعے ہر بیماری اور پریشانی کا علاج ہے اللہ تعالیٰ انکی اس مخلصانہ کاوش کو قبول فرمائے اور اس کا نفع عام اور تمام فرمائے اور انکی صلاحیتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

محمد الطاف خان

پام سٹرک نارتھ ویسٹ چارچیا امریکہ



دارالعلوم دیوبند

Darul-Uloom, Deoband U.P.

حوالہ

التاریخ

بالحمد سبحانہ و تعالیٰ

حرم ضیاء اقبال قریشی صاحب السلام علیہ درجۃ الشہداء و کرامۃ
و طائفۃ الشہداء کا اننگٹن ریڈرشن بھول ہوا۔ اس سے قبل
اس کتاب کی اردو ریڈرشن بھی دستیاب ہوا تھا جس پر احقر نے کچھ شورش
بھی دئے تھے جنہیں آپ نے قبول فرمایا۔
ماشاء اللہ آپ کی یہ اہدام بہت مستحسن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت
کو قبول فرمائے، قرآنی دعائیں اور حقوت نبی و کرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے منقول دھاتور دعائیں اقرب الی الاجابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ
وہی دیاں کو اس کتاب سے کما حقہ استفادہ کی توفیق بخشے، اور
اپنے قرب در رضا کا ذریعہ بنائے۔

درسلام

ابو القاسم نعمانی نقوی

کارگزار مجمع دارالعلوم دیوبند

۱۲۳۲ھ مجادلہ الثانیہ

Mohammad K. M. Hijazi

(MOHAMMAD MAKKI HIJAZI)

Schollar In Masjid El- Haram

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(محمد مكي حجازي)

المدرس بالمسجد الحرام

التاريخ

Date _____

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده

موسم فاطمہ اقبال قرنی کی کتاب "مخالفات العالمین" کے لئے
 مدرسہ ادبیہ ماہنامہ "فتح شریعت" کا دفتر اور جامع
 مجموعہ "عز و کرام" میں اس قیمت پر خرید کر عوام الناس
 کو استفادہ کے موقع عطا کریں

کتابخانه ادبیہ لاہور
مجموعہ خزانہ کتب
لاہور

کرامت و شفاء کے توفیق عطا فرمائیں

اگر سجادہ کا حقیقی خلیفہ ہو
 اٹھ کر عہد کرام اور ختم مکمل کے ادوار فہمائے
 اہل اہل فہمائے جمع ہوا
 بچائے ہاں کہ ہے

جمہوریہ اسلامیہ پاکستان


فدا و شجاعت
عزیز تر از جان است

1245

103833)

~~Handwritten text, possibly a signature or crossed-out name.~~

بسم الله الرحمن الرحيم



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلوة على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد
 فإنني أطلعت والله الحمد على كتاب وطائفة أصحاب الحديث للشيخ
 حافظ إقبال قريشي جزاه الله عن الإسلام والمسلمين ثم انزل
 فوجدته كتاباً جليلاً فيمن الأضاديث والفظائل شيء كثير
 وشامعاً دنيا وأخرى وهذا الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

سادة الكعبة المشرفة
 محمد صالح المنجد



Ref. No.

Dated

کلمات قرآنیہ اور احادیث سے رقیہ، مشائخ کے تجربات کی روشنی میں

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد! قرآن و احادیث کے مبارک کلمات بیشک اپنا ایک اثر اور تاثیر رکھتے ہیں، اور زندگی کے مختلف مراحل میں ان سے رہنمائی اور استفادہ کیا جاتا ہے اور اس کی برکات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، اسی لئے مختلف ادوار میں اکابر علماء امت نے کلمات قرآنیہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ فرماتے ہوئے مخصوص مواقع کے لئے کچھ اوراد و وظائف اپنے تجربات کی روشنی میں بتلائے ہیں، پیش نظر کتاب ”وظائف الصالحین“ جس کے مؤلف مولانا حافظ اقبال قریشی صاحب ہیں انھوں نے بزرگان دین کے انھیں تجربات کو کتابی شکل میں جمع کر دیا ہے، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو امت کے لئے نافع بنائے اور قبول عام سے نوازے۔

مستطد درہم

مفتی محمد مظہر علوم سہارنپور
۱۳ رجب الثانی ۱۴۲۲ھ

ستاره کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ



32 کلومیٹر شیٹن پورہ روڈ، فیصل آباد ٹون: +92-41-4689141 فیکس: +92-41-4689147
ای میل: ceo@sitara.com.pk ویب سائٹ: www.sitara.com.pk

حافظ اقبال قریشی صاحب نے مختلف وظائف پر مشتمل کتاب وظائف الصالحین تالیف کی ہے جس کی آج کل کے دور میں بہت اہمیت ہے۔

یہ کتاب اسلامی تعلیمات اور ان کے ذریعے اپنی روحانی بہاریوں کو دور کرنے کے لئے ایک بہترین مجموعہ ہے۔ میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کی 3 ہزار کاپیاں چھپوا کر ہدیہ کے طور پر تقسیم کی ہیں تاکہ لوگ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی پریشانیوں کا حل نکال سکیں جن کے متعلق اس کتاب میں قرآن سنت کی روشنی میں وظائف اور دعائیں موجود ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم حافظ اقبال قریشی صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کی تالیف سے سب کو مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔
آمین

محمد ادریس

ستاره کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ

32 کلومیٹر شیٹن پورہ روڈ، فیصل آباد

اسماء الحسنی
مع
معنی
اور
فضائل

اسماء الحسنیٰ مع معنی اور فضائل

نمبر شمار	اسماء الحسنیٰ	معنی	خواص اور فوائد
۱	اللَّهُ ۶۶	خدا تعالیٰ کا ذاتی نام	جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ "یا اللہ" پڑھے گا، انشاء اللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور غم و یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ جو لاعلاج مریض ہو اور اس کے مرض سے اطباء عاجز آگئے ہوں وہ بکثرت "یا اللہ" کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دُعا مانگے اس کو شفا نصیب ہوگی، بشرطیکہ موت کا وقت نہ آگیا ہو۔
۲	الرَّحْمَنُ ۲۹۸	رحیم کرنے والا	جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ "یا رحمن" پڑھے گا اس کے دل سے انشاء اللہ ہر قسم کی ستمی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص "الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ" کو لکھ کر اور دھو کر وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دے تو اس درخت کے پھل میں برکت ہو۔ اسی طرح طالب و مطلوب کا نام مع والدہ کے لکھ کر باندھے تو مطلوب اس کی محبت میں سرگرداں ہو جائے۔ اور اگر کسی کو گھو لکر پلائے تو اس کے دل میں کاتب کی محبت ہو، بشرطیکہ محبت جائز ہو۔

نمبر شمار	اسماءِ حسنیٰ	معنی	خواص اور فوائد
۳	الرَّحِیْمُ ۲۵۹	رحیم	جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد سورتہ "یا رَحِیْمُ" پڑھے گا اس کے قلب کی غفلت اور نسیان دفع ہو جائے گا، اور تمام دنیوی آفتوں اور عملِ مکروہ سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی، اور اگر اس کو مشک و زعفران سے لکھ کر کس محفوظ جگہ بدخلق آدمی کے گھر میں دفن کر دیا جائے تو اس میں حیا، ترسم اور مسکنت پیدا ہو جائے گی۔
۴	الْمَلِکُ ۹۰	ملک	جو شخص روزانہ صبح کی نماز کے بعد "یا مَلِکُ" کثرت سے پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی فرمادیں گے، اور جو زوال کے وقت ایک سو بیس بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو صفائی قلب اور غنا ظاہری و باطنی سے سرفراز فرمائیں گے۔
۵	الْقُدُّوسُ ۱۴۰	قُدُّوس	جو شخص روزانہ زوال کے وقت اس اسمِ مبارک کو کثرت سے پڑھے گا انشاء اللہ تعالیٰ اس کا دل روحانی امراض سے پاک رہے گا۔ یعنی حسد، بغض، کینہ، حرص، خود غرضی اور ریاکاری وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔
۶	السَّلَامُ ۱۳۱	سَلَام	جو شخص کثرت سے اس اسمِ مبارک کو پڑھتا رہے گا انشاء اللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر مریض کے پاس اس کے سر ہانے بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر اس

نمبر شمار	اسماء حسنیٰ	معنی	خواص اور فوائد
			اسم مبارک کو ۱۳۶ مرتبہ بلند آواز سے کہہ کر مریض بھی مرنے لے پڑھیں تو انشاء اللہ اس کو شفاء نصیب ہوگی۔
۷	الْمُؤْمِنُ ۱۳۶	امان و ایمان پانے والا	جو شخص کسی خوف کے وقت ۶۳۰ مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا، انشاء اللہ ہر طرح کے خوف اور جانی و مالی نقصان سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص اس اسم مبارک کو پڑھے یا لکھ کر پاس رکھے اس کا ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔
۸	الْمُهَيِّمُ ۱۳۵	مہم کرنے والا	جو شخص غسل کر کے دو رکعت نماز پڑھے اور صدقہ دل سے ۱۰۰ مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرمادیں گے اور غلو بہت ہی پیدا ہوگی۔ اور جو شخص ۱۱۵ مرتبہ پڑھے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہوگا یعنی اس پر اسرار الہی منکشف ہونے لگیں گے۔
۹	الْعَزِيزُ ۹۲	پروردگار	جو شخص چالیس دن تک چالیس مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معزز و مستغنی بنادیں گے۔ اور جو شخص نماز فجر کے بعد ۴۱ مرتبہ پڑھے گا وہ انشاء اللہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور ذلت کے بعد عزت پائے گا۔

نمبر شمار	اسماءِ حسنیٰ	معنی	خواص و فوائد
۱۰	الْجَبَّارُ ۲۰۶	بڑے بزرگ دست	جو شخص روزانہ صبح و شام ۲۲۶ مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاء اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم و قہر سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر یہ اسم مبارک نقش کروا کے پہنے گا اس کی ہیبت و شوکت لوگوں کے دلوں میں انشاء اللہ پیدا ہوگی۔
۱۱	الْمُتَكَبِّرُ ۶۶۲	بڑائی اور بزرگی والا	جو شخص کثرت سے اس اسم مبارک کا ورد رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت و بڑائی عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہر کام کی ابتداء میں یہ اسم مبارک بکثرت پڑھے تو انشاء اللہ اس میں کامیاب ہوگا۔ شب زفاف میں بوی کے پاس جا کر قبل مباشرت دس بار ذکر کرے تو اولادِ زینہ نیک بخت ہو۔
۱۲	الْخَالِقُ ۷۳۱	پیدا کرنے والا	جو شخص سات روز تک متواتر سو مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاء اللہ تعالیٰ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص ہمیشہ یہ اسم مبارک "الْخَالِقُ" پڑھتا رہے تو اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور اس کا چہرہ نور رہتا ہے۔
۱۳	الْبَارِئُ ۲۱۳	جان ڈالنے والا	اگر بانجھ عورت سات روزے رکھے اور پانی سے افطار کرنے کے بعد ۲۱ مرتبہ "الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ" پڑھے تو انشاء اللہ اسے حمل قرار پائے اور اولادِ زینہ نصیب ہو۔

نمبر شمار	اسماء حسنی	معنی	خواص اور فوائد
۱۴	الْمُصَوِّرُ ۲۳۶	صور دینے والا	اس اسم مبارک کے خواص و برکات بھی وہی ہیں جو "الْبَارِئُ" کے ہیں۔
۱۵	الْغَفَّارُ ۱۲۸۱	درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا	جو شخص نمازِ جمعہ کے بعد ۱۰ مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاء اللہ اس پر مغفرت کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے، اور ہر تنگی رفع ہوگی اور بے شمار رزق حاصل ہوگا۔ اور جو شخص نمازِ عصر کے بعد روزانہ "يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي" پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاء اللہ بخشے ہوئے لوگوں کے زمرہ میں داخل کریں گے۔
۱۶	الْقَهَّارُ ۳۰۶	جس کو اپنے قابو میں رکھنے والا	جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھے تو انشاء اللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی اور خدا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ اگر چینی کے برتن پر لکھ کر ایسے شخص کو پلایا جائے جو بوجہ سحر کے عورت پر قسا در نہ ہو تو اس کی برکت سے سحر دفع ہو۔
۱۷	الْوَهَّابُ ۱۴	جس کو کچھ عطا کرنے والا	جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھا کرے یا لکھ کر اپنے پاس رکھے یا چاشت کی نماز کے آخری سجدہ میں چالیس مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھا کرے تو انشاء اللہ فقر و فاقہ سے اُسے حیرت انگیز طور پر نجات ملے گی۔ اور اگر کوئی خاص حاجت درپیش ہو تو

نمبر شمار	اسماءِ حسنیٰ	معنیٰ	خواص اور فوائد
			گھر یا مسجد کے صحن میں تین بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھائے اور ۱۰ مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے، انشاء اللہ تعالیٰ حاجت پوری ہو جائے گی۔
۱۸	الرِّزَاقُ ۳۰۸	بہت بڑا روزی دینے والا	جو شخص نمازِ صبح سے قبل اپنے مکان کے چاروں کونوں میں دس دس مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے انشاء اللہ کھول دیں گے اور بیماری و مفلسی اس کے گھر میں ہرگز نہ آئے گی۔ یہ عمل قبلہ کی داہنی جانب سے شروع کیا جائے اور منہ قبلہ کی طرف ہی رہے۔
۱۹	الْفَتْاحُ ۴۸۹	بہت بڑا مشکل کشا	جو شخص نمازِ فجر کے بعد دونوں ہاتھ سینہ پر رکھ کر ۷۷ مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھا کرے گا انشاء اللہ اس کا دل نورِ ایمان سے منور ہو جائے گا اور قلب میں طہارت پیدا ہوگی۔
۲۰	الْعَلَمِيُّ ۱۵۰	بہت وسیع علم والا	جو شخص کثرت سے ”يَا عَلَمِيَّ“ کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر انشاء اللہ تعالیٰ علم و معرفت کے دروازے کھول دیں گے، اور اس کا حافظہ قوی ہوگا۔ جو شخص ”رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ کی تلاوت کرے گا انشاء اللہ اس کے علم میں بے حد اضافہ ہوگا۔

نمبر شمار	اسما حسنیٰ	معنی	خواص و فوائد
۲۱	الْقَابِضُ ۹۰۳	روزی تنگ کرنے والا	جو شخص روٹی کے چار قسموں پر اس اسم مبارک کو لکھ کر چالیس دن تک کھائے گا بھوک، پیاس، زخم اور درد وغیرہ کی تکلیف انشاء اللہ محسوس نہ ہوگی۔
۲۲	الْبَاسِطُ ۷۲	روزی فراخ کرنے والا	جو شخص نمازِ چاشت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ دس مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اُسے غنی بنادیں گے اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔
۲۳	الْحَفِیْضُ ۱۳۸۱	پست کرنے والا	جو شخص روزانہ پانچ سو مرتبہ "یا خافِیْضُ" پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری اور مشکلات دور فرمادیں گے۔ جو شخص تین دن تک مسلسل پڑھے رکھے اور چوتھے روز ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر ۷ بار "یا خافِیْضُ" پڑھے تو انشاء اللہ دشمن پر فتیاب ہو۔
۲۴	الرَّافِعُ ۳۵۱	بلند کرنے والا	جو شخص ہر مہینہ کی چودھویں رات کو آدھی رات کے وقت ۱۰۰ مرتبہ "یا رافِعُ" پڑھے تو اللہ پاک اسے انشاء اللہ مخلوق سے بے نیاز کر دیں گے اور تو نگری عطا فرمائیں گے۔
۲۵	الْمُعِزُّ ۱۱۷	عزت دینے والا	جو شخص پیر یا جمعہ کے دن بعد نمازِ مغرب ۴۰ مرتبہ "یا مُعِزُّ" پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاء اللہ لوگوں میں باعزت اور باوقار بنادیں گے اور اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔

نمبر شمار	اسماء حسنہ	معنی	خواص اور فوائد
۲۶	الْمُذِلُّ ۷۷۰	دین والا	جو شخص ۷۵ مرتبہ "يَا مُذِلُّ" پڑھ کر سر بسجود ہو کر دُعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاء اللہ حاسدوں، ظالموں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدہ میں اس کا نام لے کر کہ "اے اللہ! فلاں ظالم یا دشمن کے شر سے محفوظ رکھ" دُعا کرے تو انشاء اللہ قبول ہوگی۔
۲۷	السَّمِيعُ ۱۸۰	پہنچنے والا	جو شخص جمعرات کے دن چاشت کی نماز کے بعد پانچ سو، یا ایک سو یا پچاس مرتبہ "يَا سَمِيعُ" پڑھے گا، انشاء اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ درمیان میں کسی سے بات ہرگز نہ کرے، اور جو شخص جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سو مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاء اللہ نظرِ خاص سے نوازیں گے۔
۲۸	الْبَصِيرُ ۳۰۲	پہنچ دیکھنے والا	جو شخص نمازِ جمعہ کے بعد سو مرتبہ "يَا بَصِيرُ" پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاء اللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرمادیں گے۔ جو شخص جمعرات کے روز نمازِ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اس اسمِ مبارک کو سو مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت سے منور فرمائیں گے۔

نمبر شمار	اسما حسنیٰ	معنی	خواص اور فوائد
۲۹	الْحَكَمُ ۶۸	حاکم مطلق	جو شخص اخیر شب میں ۹۹ مرتبہ با وضو یہ اسم مبارک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو انشاء اللہ تعالیٰ محل اسرار و انوار بنادیں گے۔ اور جو شخص جمعہ کی رات میں یہ اسم مبارک اس قدر پڑھے کہ بے حال و بے خود ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو کشف و الہام سے نوازیں گے۔
۳۰	الْعَدْلُ ۱۰۴	پایا انصاف	جو شخص جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں روٹی کے بیس ٹکڑوں پر "الْعَدْلُ" لکھ کر کھائے گا اللہ تعالیٰ مخلوق کو اسکے لئے مسخر فرمادیں گے۔
۳۱	اللطیف ۱۲۹	بڑا لطیف و کریم والا	جو شخص ۱۳۳ مرتبہ "يَا لَطِيفُ" پڑھا کرے اس کے رزق میں انشاء اللہ برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ جو شخص فقر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی، کسمپرسی یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہو وہ اچھی طرح وضو کر کے دو گانہ پڑھے اور اپنے مقصد و مطلب کو دل میں رکھ کر سو مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے، مقصد یقیناً پورا ہوگا۔
۳۲	الْخَبِيرُ ۸۱۲	باجبر اور آگاہ	جو شخص سات روز تک یہ اسم مبارک بکثرت پڑھے گا انشاء اللہ تعالیٰ اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہونے لگیں گے۔ جو شخص خواہشات نفسانی میں یا کسی موزی کے

نمبر شمار	اسماء حسنہ	معنی	خواص اور فوائد
			پنجہ میں گرفتار ہو وہ بکثرت اس اسم مبارک کا ورد کرے انشاء اللہ ان سے رہائی نصیب ہوگی۔
۳۳	الْحَلِيمُ ۸۸	بلا دربار	جو شخص اس اسم مبارک کو کاغذ پر لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر اس پانی کو چھڑکے یا ملے گا انشاء اللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اگر اوزاروں پر چھڑکے تو اس کی صنعت و حرفت میں برکت ہو۔ اگر کشتی پر چھڑکے تو غرق ہونے سے محفوظ رہے۔ جانور پر چھڑکا جائے تو تمام آفتوں سے وہ محفوظ رہیں۔ اگر کوئی امیر آدمی اس کی بکثرت تلاوت کرے تو اس کا عز و وقار برقرار رہے۔
۳۴	الْعَظِيمُ ۱۰۲۰	بلا زنگ	جو شخص اس اسم مبارک کا بکثرت ورد رکھے گا انشاء اللہ اسے عزت و عظمت نصیب ہوگی اور وہ ہر مرض سے محفوظ رہے گا۔ اس اسم مبارک کے ۱۲ مرتبہ پڑھنے سے ہر آفت سے امن حاصل ہوگا۔
۳۵	الْغَفُورُ	بلا غش و لا	جو شخص اس اسم مبارک کا بکثرت ورد رکھے گا انشاء اللہ اس کی تکلیفیں اور رنج و غم دور ہو جائیں گے اور مال و اولاد میں برکت ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو سجدہ میں "یا رَبِّ اغْفِرْ لِي" تین مرتبہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادیں گے (نماز کے سجدہ کے علاوہ)۔ اس کے علاوہ اس

نمبر شمار	اسماء حسنیٰ	معنی	خواص اور فوائد
			اسم مبارک کو تین بار لکھ کر بخار والے کو باندھ دیا جائے تو بخار جاتا رہے، انشاء اللہ۔
۳۶	الشَّكُورُ ۵۲۶	دردان	جو شخص معاش تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اس اسم مبارک کو ۳۱ مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاء اللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔ اگر تکان یا گرانی اعضاء ہو تو اس اسم مبارک کو لکھ کر بدن پر پھیر دے اور پیئے تو آرام ہو اور اگر ضعیف البصر اپنی آنکھ پر پھیرے تو نگاہ میں ترقی ہو۔
۳۷	الْعَلِيُّ ۱۱۰	بلند و بزرگ	جو شخص اس اسم مبارک کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے اسے رتبہ کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی۔ اگر اس اسم مبارک کو لکھ کر بچے کے باندھ دیا جائے تو جلد جوان ہو۔ اگر مسافر اپنے پاس رکھے تو جلد اپنے عزیزوں سے ملے۔ اگر محتاج اپنے پاس رکھے تو غنی ہو جائے۔
۳۸	الْكَبِيرُ ۲۳۲	بزرگ	جو شخص اپنے عہدہ سے معزول ہو گیا ہو وہ سات روزے رکھے اور روزانہ ایک ہزار مرتبہ "یا کبیر" پڑھے وہ انشاء اللہ اپنے عہدہ پر بحال ہو جائے گا اور بزرگی و برتری نصیب ہوگی۔ جو شخص اس اسم مبارک کی کثرت کرے گا اس پر علوم و معرفت کے دروازے کھل جائیں گے۔

نمبر شمار	اسما حسنی	معنی	خواص اور فوائد
			اگر کسی کھانے کی چیز پر پڑھ کر دم کر کے میاں بیوی کو کھلایا جائے تو باہم اُلفت پیدا ہو۔
۳۹	الْحَفِیْظُ ۹۹۸	ب۔ کمالی	جو شخص بکثرت ”یا حَفِیْظُ“ کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ انشاء اللہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان و ضرر سے محفوظ رہے گا چاہے وہ درندوں کے درمیان ہی کیوں نہ سوتا ہو۔
۴۰	الْمُقِیْتُ ۵۵۰	ب۔ روز روزی و توانائی دینے والا	جو شخص خالی آنکھوں میں سات مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے گا، اور اس میں خود پانی پیئے یا کسی دوسرے کو پلائے یا سونگھے گا تو انشاء اللہ مقصد حل ہو جائے گا۔ اگر روزہ دار اسے مٹی پر پڑھ کر یا لکھ کر اس کو تر کر کے سونگھے تو قوت اور غذائیت حاصل ہو۔ اگر مسافر کو روزہ پر سات بار پڑھ کر پھر اس سے پانی پیا کرے تو وحشتِ سفر سے مامون ہو۔
۴۱	الْحَسْبُ ۸۰	ب۔ کفایت کرنے والا	جس شخص کو کسی بھی شخص یا چیز کا ڈر ہو وہ جمعرات سے شروع کر کے آٹھ روز تک صبح و شام ستر مرتبہ ”حَسْبِیَ اللّٰهُ الْحَسْبُ“ پڑھے وہ انشاء اللہ ہر چیز کے شر سے محفوظ رہے گا۔ جسے کوئی غم یا مصیبت واقع ہو وہ ”حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ“ کی کثرت کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دنیوی و اخروی پریشانیاں دور فرمائیں گے۔

نمبر شمار	اسماء حسنہ	معنی	خواص اور فوائد
۴۲	الْجَلِيلُ ۷۳	بڑا اور بلند مرتبہ والا	جو شخص مشک وزعفران سے اس اسم مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اور بکثرت "یا جَلِيلُ" کا ورد رکھے گا، انشاء اللہ اس کو عزت و عظمت اور قدر و منزلت حاصل ہوگی۔
۴۳	الْكَرِيمُ ۲۷۰	بہت کرم کرنے والا	جو شخص روزانہ سوتے وقت "یا کَرِيمُ" پڑھتے پڑھتے سو جایا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو علماء و صلحاء میں عزت نصیب فرمائیں گے۔
۴۴	الرَّقِيبُ ۳۱۲	باناگسب انسان	جو شخص اپنے اہل و عیال و مال و منال پر سات مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر روزانہ دم کیا کرے اور "یا رَقِيبُ" کا ورد رکھے، انشاء اللہ وہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سات بار اس اسم مبارک کو پڑھے، انشاء اللہ بچہ ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ اگر سفر میں کسی بال بچے کی طرف سے فکر ہو تو اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس اسم مبارک کو سات مرتبہ پڑھے، انشاء اللہ وہ بچہ سفر میں محفوظ رہے گا۔
۴۵	الْمُجِيبُ ۵۵	دُعائیں سننے اور قبول کرنے والا	جو شخص کثرت سے "یا مُجِيبُ" پڑھا کرے انشاء اللہ اس کی دعائیں بارگاہِ خداوندی میں قبول ہونے لگیں گی۔ نیز دعا کے ساتھ ذکر کرنا موجب قبولیت دعا ہے۔

نمبر شمار	اسما حسنہ	معنی	خواص و فوائد
۴۶	الْوَاسِعُ ۱۳۷	بزرگ و بالا	جو شخص بکثرت ”یا واسِع“ کا ذکر کرے گا انشاء اللہ اسکو ظاہری و باطنی غنا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور اسمیں حوصلگی و بردباری پیدا ہوگی۔
۴۷	الْحَكِيمُ ۷۸	بڑی حکمتوں والا	جو شخص کثرت سے ”یا حَکیم“ پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیں گے۔ جس کا کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو تو وہ پابندی سے اس اسم مبارک کو پڑھے انشاء اللہ کام پورا ہو جائے گا۔
۴۸	الْوَدُودُ ۲۰	بہت محبت کرنے والا	جو شخص ایک ہزار مرتبہ ”یا وَدُودُ“ پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا اور بیوی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائے گا تو انشاء اللہ میاں بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور باہمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو شخص اس اسم مبارک کا ہزار بار ذکر کرے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہو جائے گا۔
۴۹	الْمُجِيدُ ۵۷	بڑا بزرگ	جو شخص کسی موزی مرض آتشک، جذام یا برص وغیرہ میں گرفتار ہو، وہ (۱۳، ۱۴، ۱۵) تاریخ کے روزے رکھے اور افطار کے بعد اس اسم مبارک کو پڑھا کرے اور پانی پر دم کر کے پیئے، انشاء اللہ وہ مرض دور ہو جائے گا۔ چاہے اسکا ازالہ بلا سبب ہو یا اسباب دنیویہ یعنی علاج وغیرہ کے ساتھ ہو۔

نمبر شمار	اسماء حسنہ	معنی	خواص اور فوائد
۵۰	الْبَاعِثُ ۷۳	مردوں کو زندہ کرنا والا	جو شخص روزانہ سوتے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک سو ایک مرتبہ ”یا بَاعِثُ“ پڑھا کرے، انشاء اللہ اس کا دل علم و حکمت سے زندہ ہو جائے گا۔
۵۱	الشَّهِيدُ ۳۱۹	حاضر و ناظر	جس شخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو وہ صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر ۲۱ مرتبہ ”یا شَهِيدُ“ پڑھ کر دم کرے، انشاء اللہ فرمانبردار ہو جائے گی۔ جو شخص اس اسم مبارک کی کثرت سے تلاوت کرے گا، اس کا دل باطل سے متفر ہو کر حق کی جانب مائل ہوگا۔
۵۲	الْحَقُّ ۱۰۸	برحق و برقرار	جو شخص پھوکر کاغذ کے چاروں کونوں پر ”الْحَقُّ“ لکھ کر سحر کے وقت کاغذ کو پھیل پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند کر کے دعا کرے، انشاء اللہ گمشدہ شخص یا سامان مل جائے گا اور نقصان و مصائب سے محفوظ رہے گا۔
۵۳	الْوَكِيلُ ۶۶	بڑا کارکن	جو شخص کسی بھی آسمانی آفت کے خوف کے وقت ”یا وَكِيلُ“ کا ورد کرے گا اور اس اسم مبارک کو اپنا وکیل بنالے گا وہ انشاء اللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا جسے کوئی غم یا مصیبت واقع ہو وہ ”حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ“ کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام دنیوی و اخروی پریشانیاں دور فرمادیں گے۔

نمبر شمار	اسماءِ حسنیٰ	معنی	خواص اور فوائد
۵۴	الْقَوِيُّ ۱۱۶	بڑی طاقت و قوت والا	جو شخص واقعی مظلوم، کمزور اور مغلوب ہو وہ اس ظالم اور طاقتور دشمن کو دفع کرنے کی نیت سے بکثرت اس اسم مبارک کو پڑھے تو انشاء اللہ اس سے محفوظ رہے گا۔ (بے محل اور ناحق یہ عمل ہرگز نہ کرے)۔
۵۵	الْمَتِينُ ۵۰۰	ثبید قوت والا	جس عورت کے دودھ نہ ہو اس کو "الْمَتِينُ" کا غلڑہ لکھ کر دھو کر پلائیں، انشاء اللہ خوب دودھ ہوگا۔ جو شخص لڑکایا لڑکی پر "الْمَتِينُ" دس بار پڑھے گا تو وہ بچہ فسق و فجور اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔
۵۶	الْوَلِيُّ ۴۶	مددگار اور حمایتی	جو شخص اپنی بیوی کی عادتوں، خصلتوں سے خوش نہ ہو وہ جب اس کے سامنے جائے تو اس اسم مبارک کو پڑھا کرے انشاء اللہ نیک خصلت ہو جائے گی۔ جو شخص شبِ جمعہ میں اس اسم مبارک کو ایک ہزار بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں گے۔
۵۷	الْحَمِيدُ ۶۲	لائق تعریف	جو شخص ۴۵ دن تک متواتر ۹۳ مرتبہ تنہائی میں پڑھا کرے اسکی تمام بُری خصلتیں دُور ہو جائیں گی انشاء اللہ۔
۵۸	الْمُحْصِي ۱۴۸	پلے علم و شمار میں رکھنے والا	جو شخص روٹی کے بیس ٹکڑوں پر روزانہ بیس مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے اور کھائے تو انشاء اللہ مخلوق اس کے لئے مسخر ہو جائے گی۔

نمبر شمار	اسماء حسنہ	معنی	خواص اور فوائد
۵۹	الْمُبْدِيَّةُ ۵۶	پہلی بار پیدا کرنے والا	جو شخص سحر کے وقت حاملہ عورت کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ۹۹ مرتبہ "يَا مُبْدِيَّةُ" پڑھے گا، انشاء اللہ حمل ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا اور جب تک بچہ کامل نہ ہوگا وضع حمل نہ ہوگا۔
۶۰	الْمُعِيدُ ۱۲۴	دوبارہ پیدا کرنے والا	گمشدہ شخص کو واپس بلانے کے لئے جب گھر کے سب آدمی سو جائیں تو گھر کے چاروں کونوں میں ستر ستر مرتبہ "يَا مُعِيدُ" پڑھے، انشاء اللہ سات روزیں واپس آجائے گا یا پستہ چل جائے گا۔ جو شخص اس اسم مبارک کا ورد کرے گا اسے بھول ہوئی باتیں یاد آجائیں گی۔ اور جو شخص اس اسم مبارک کو ایک ہزار مرتبہ پڑھے گا۔ اس کی حیرت دور ہو جائے گی۔
۶۱	الْمُحْيِي ۶۸	زندگی دینے والا	جو شخص بیمار ہو وہ کثرت سے "الْمُحْيِي" کا ورد رکھے یا اگر کسی بیمار پر دم کیا جائے تو انشاء اللہ جلد صحتیاب ہو جائے۔ جو شخص ۸۹ مرتبہ "الْمُحْيِي" پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، وہ ہر طرح کی قید و بند سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا۔
۶۲	الْمُمِيتُ ۴۹۰	موت دینے والا	جس شخص کا نفس اس کے قابو میں نہ ہو وہ ہوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر "الْمُمِيتُ" پڑھتے پڑھتے سو جائے تو انشاء اللہ اس کا نفس مطیع ہو جائے گا۔ اگر کسی میں

نمبر شمار	اسماء حسنیٰ	معنی	خواص اور فوائد
			اسراف کی عادت ہو تو وہ اس اسم مبارک کی کثرت سے تلاوت کرے تو یہ عادت بد اس سے چھوٹ جائے گی اور شوق عبادت پیدا ہو جائے گی۔
۶۳	الْحَيُّ ۱۸	ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا	جو شخص روزانہ تین ہزار مرتبہ "الْحَيُّ" کا ورد رکھے گا وہ انشاء اللہ کبھی بیمار نہ ہوگا۔ جو شخص اس اسم مبارک کو چینی کے برتن پر مشک اور گلاب سے لکھ کر شیریں پانی سے دھو کر پیئے گا یا کسی دوسرے بیمار کو پلائے گا تو انشاء اللہ شفائے کامل نصیب ہوگی۔
۶۴	الْقَيُّوْمُ ۱۵۶	جو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا	جو شخص بکثرت اس اسم مبارک "يَا قَيُّوْمُ" کا ورد رکھے گا، انشاء اللہ لوگوں میں اس کی عزت و ماکھ زیادہ ہوگی، اور تنہائی میں بیٹھ کر ورد کرے گا تو انشاء اللہ خوشحال ہو جائے گا۔ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک "يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ" کا ورد کیا کرے، انشاء اللہ اس کی سستی اور کاہلی دور ہو جائے۔ ان ہر دو اسماء کی تلاوت سے نیند کا غلبہ دور ہو جاتا ہے اور مستعدی پیدا ہو جاتی ہے۔
۶۵	الْوَجِدُ ۱۴	ہر چیز کو پانے والا	جو شخص کھانا کھاتے وقت "يَا وَجِدُ" کا ورد رکھے، غذا اس کے قلب کی طاقت و قوت اور نورانیت کا باعث ہوگی، انشاء اللہ۔

نمبر شمار	اسماء حسنیٰ	معنی	خواص اور فوائد
۶۶	الْمُاجِدُ ۲۸	بزرگی اور بڑائی والا	جو شخص تنہائی میں اس اسم مبارک کو اس قدر پڑھے کہ بے خود ہو جائے تو انشاء اللہ اس کے قلب پر انوار الہیہ ظاہر ہونے لگیں گے۔
۶۷	الْوَّاحِدُ ۱۹ الْأَحَدُ	۱۔ ۲۔ ۳۔	جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ "الْوَّاحِدُ الْأَحَدُ" پڑھا کرے گا، اس کے دل سے انشاء اللہ مخلوق کی محبت اور خوف جاتا رہے گا۔ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس اسم مبارک کو لکھ کر اپنے پاس رکھے۔ انشاء اللہ اس کو اولاد صالح نصیب ہوگی۔
۶۸	الصَّمَدُ ۱۳۴	۱۔ ۲۔ ۳۔	جو شخص سحر کے وقت سجدہ میں سر رکھ ۱۱۵ یا ۱۲۵ مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا اس کو انشاء اللہ ظاہری و باطنی سچائی نصیب ہوگی۔ اور جو شخص با وضو اس اسم مبارک کا ورد جاری رکھے وہ انشاء اللہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اور کبھی ظالموں کے ہاتھ میں گرفتار نہ ہوگا۔ اور جب تک اس اسم مبارک کا ذکر کرتا رہے گا بھوک کا اثر نہ ہوگا۔
۶۹	الْقَادِرُ ۳۰۵	قدرت والا	جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر ۱۰ مرتبہ "يَا قَادِرُ" پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرمادیں گے (اگر وہ حق پر ہوگا)۔ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل کام یا کسی کام میں دشواری یا دقت پیش

نمبر شمار	اسماء حسنیٰ	معنی	خواص اور فوائد
			آجائے تو ۴۱ بار "یا قَادِرُ" پڑھے انشاء اللہ وہ دشواری دور ہو جائے گی۔
۷۰	الْمُقْتَدِرُ ۷۴۴	پوری قدرت رکھنے والا	جو شخص سوکراٹھنے کے بعد بکثرت "یا مُقْتَدِرُ" کا ورد کیا کرے یا کم از کم بیس مرتبہ پڑھا کرے انشاء اللہ اسکے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔
۷۱	الْمُقَدِّمُ ۱۸۴	پہلے اور آگے کرنے والا	جو شخص جنگ کے وقت کثرت سے "یا مُقَدِّمُ" پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے (پیش قدمی کی) قوت یقیناً عطا فرمادیں گے اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور جو شخص ہر وقت "یا مُقَدِّمُ" کا ورد رکھے گا انشاء اللہ وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے گا۔
۷۲	الْمَوْخِرُ ۸۴۶	پچھے اور بعد میں رکھنے والا	جو شخص کثرت سے "یا مُوْخِرُ" کا ورد رکھے گا اسے انشاء اللہ سچی توبہ نصیب ہوگی، اور جو شخص روزانہ سو مرتبہ اس اسم مبارک کو پابندی سے پڑھا کرے اس کو انشاء اللہ حق تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوگا کہ اس کے بغیر چین نہ آئے گا۔
۷۳	الْأَوَّلُ ۳۷	پہلا	جس شخص کے لڑکانہ ہوتا ہو وہ چالیس دن تک چالیس مرتبہ روز "یا اَوَّلُ" پڑھا کرے انشاء اللہ اسکی مراد پوری ہوگی۔ جو شخص مسافر ہو وہ جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ "یا اَوَّلُ" پڑھے، انشاء اللہ جلد وطن واپس بخیریت پہنچے گا۔

نمبر شمار	اسما حسنہ	معنی	خواص اور فوائد
۷۴	الْآخِرُ ۸۰۱	آخری	جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ "یا آخِرُ" پڑھا کرے اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت دُور ہو جائے گی اور انشاء اللہ ساری عمر کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔
۷۵	الظَّاهِرُ ۱۱۰۶	ظاہر و آشکارا	جو شخص نماز اشراق کے بعد پانچ سو مرتبہ "یا ظاہِرُ" کا ورد کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور عطا فرمادیں گے، انشاء اللہ۔
۷۶	الْبَاطِنُ ۶۲	پوشیدہ و پنهان	جو شخص روزانہ ۳۳ مرتبہ "یا باطِنُ" پڑھا کرے گا انشاء اللہ اس پر باطنی اسرار ظاہر ہونے لگیں گے اور اس کے قلب میں انس و محبت الہی پیدا ہوگی۔ جو شخص دو رکعت نماز ادا کر کے "هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" پڑھا کرے، انشاء اللہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی اور تمام خیالات باطلہ دُور ہو جائیں گے۔
۷۷	الْوَالِيُ ۲۷	مولى اور متصرف	جو شخص کثرت سے "یا وَاَلِی" کا ورد رکھے گا وہ ناگہانی آفتوں سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا۔ کوئے آبخورے پر یہ اسم مبارک لکھ کر اس میں پانی بھر کر مکان میں چھڑکے گا تو وہ مکان بھی انشاء اللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی کو مسخر کرنا چاہے تو گیارہ مرتبہ

نمبر شمار	اسماء حسنٰی	معنی	خواص اور فوائد
			یہ اسم مبارک پڑھے انشاء اللہ وہ فرمانبردار ہو جائے گا۔ اس اسم مبارک کی کثرت بجل کی کرک سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔
۷۸	الْمُعَالِ ۵۵۱	بلند و برتر	جو شخص کثرت سے "یا مُعَالِی" کا ورد رکھے انشاء اللہ اس کی تمام مشکلات رفع ہو جائیں گی۔ اور جو عورت حالت حیض میں کثرت سے اس اسم مبارک کا ورد رکھے، انشاء اللہ اس کی تکلیف رفع ہوگی۔
۷۹	الْبَرِّ ۲۰۲	پُر اچھا سلوک کرنے والا	جو شخص (نعوذ باللہ) شراب نوشی اور زنا کاری جیسے بدترین گناہوں میں مُبتلا ہو وہ روزانہ سات مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے، انشاء اللہ ان گناہوں کی رغبت جاتی رہے گی۔ جو شخص حُب دُنیا میں مُبتلا ہو وہ اس اسم مبارک کو کثرت پڑھتا ہے، انشاء اللہ دُنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی۔ جو شخص اپنے بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی رستہ مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر دم کرے اور اللہ کے سپرد کرے، وہ بلوغ تک تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا اور نیک بخت اُٹھے گا۔
۸۰	التَّوَّابِ ۲۰۹	بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا	جو شخص نمازِ چاشت کے بعد ۶۳۰ مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھا کرے، انشاء اللہ اسے سچی توبہ نصیب ہو۔ جو شخص کثرت سے اس اسم مبارک کو پڑھا کرے انشاء اللہ

نمبر شمار	اسما حسن	معنی	خواص اور فوائد
			اس کے تمام کام آسان ہوں گے۔ اگر کسی ظالم پر دس مرتبہ پڑھ کر پھونکا جائے تو انشاء اللہ اس سے خلاص نصیب ہوگی۔
۸۱	الْمُنْتَقِمُ ۶۳۰	بِرَّ يَا لِي وَاللَّهِ	جو شخص حق پر ہو اور دشمن سے بدلہ لینے کی اس میں قدرت نہ ہو وہ تین جمعہ تک بکثرت "يَا مُنْتَقِمُ" پڑھے، اللہ تعالیٰ خود اس سے انتقام لیں گے۔ (یہ عمل ناحق ہرگز نہ کیا جائے، بہت سخت گناہ ہے)۔
۸۲	الْعَفُوُّ ۱۵۶	بِشَّيْءٍ مِّنْ عَفْوِ اللَّهِ	جو شخص کثرت سے "يَا عَفُوُّ" پڑھا کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو انشاء اللہ معاف فرمادیں گے، اور اسے رضائے الہی حاصل ہوگی۔
۸۳	الرَّؤُوفُ ۲۸۶	بِهِتْ بِرَّ الشَّفِيقِ	جو شخص بکثرت "يَا رَءُوفُ" کا ورد رکھے گا مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی اور وہ مخلوق پر۔ اور جو شخص دس مرتبہ درود شریف اور دس مرتبہ اس اہم مبارک کو پڑھے تو انشاء اللہ اس کا غصہ رفع ہو جائے گا یا کسی غضبناک شخص پر دم کیا جائے تو اس کا غصہ رفع ہو جائے۔
۸۴	مَالِكُ الْمُلْكِ ۲۱۲	حُكْمُ كَامِلٍ	جو شخص "يَا مَالِكُ الْمُلْكِ" کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی اور لوگوں سے بے نیاز فرمادیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔

نمبر شمار	اسماء حسنہ	معنی	خواص اور فوائد
۸۵	يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۱۱۰۰	ظہیر الجلال والاکرام والا	جو شخص کثرت سے "يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت اور مخلوق سے استغفار عطا فرمادیں گے۔
۸۶	الْمُقْسِطُ ۲۰۹	عدل اصفاف قائم کرنے والا	جو شخص روزانہ اس اسم مبارک کو پڑھا کرے گا وہ انشاء اللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر کسی خاص اور جائز مقصد کے لئے سات سو (۷۰۰) مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے گا انشاء اللہ وہ مقصد حاصل ہوگا۔
۸۷	الْجَامِعُ ۱۱۴	سب کو جمع کرنے والا	جس شخص کے اعزاء یا احباب منتشر ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کر کے اور آسمان کی طرف منہ کر کے دس مرتبہ "يَا جَامِعُ" پڑھے اور ایک انگلی بند کر لے۔ اسی طرح ہر دس مرتبہ پر ایک انگلی بند کرتا جائے۔ آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے، انشاء اللہ جلد جمع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو "اللَّهُمَّ يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اجْمَعْ ضَالَّتِي" پڑھا کرے وہ چیز اُسے انشاء اللہ مل جائے گی۔ جائز محبت کے لئے بھی یہ دُعا بے مثال ہے۔
۸۸	الْغَنِيُّ ۱۰۶۰	بڑے نیاز و بے پرواہ	جو شخص روزانہ ستر (۷۰) مرتبہ "يَا غَنِيَّ" پڑھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے اور انشاء اللہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ جو شخص کس ظاہری

نمبر شمار	اسماء حسنی	معنی	خواص اور فوائد
			و باطنی مرض یا بلا میں گرفتار ہو وہ اپنے تمام اعضاء و جسم پر پڑھ کر دم کیا کرے انشاء اللہ نجات پائے گا۔
۸۹	اَلْمُعَنَّى ۱۱۰۰	بے نیاز و مخنی بنانے والا	جو شخص اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر گیارہ سو گیارہ مرتبہ وظیفہ کی طرح یہ اسم مبارک پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری و باطنی غنا عطا فرمائیں گے۔ صبح کی نماز کے بعد پڑھے یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھے، اس کے ساتھ سورۃ مزمل بھی تلاوت کرے۔ اگر اس اسم مبارک کو بیوی سے صحبت سے پیشتر پڑھے تو بیوی کو اس سے محبت پیدا ہو جائے گی۔
۹۰	اَلْمَانِعُ ۲۰۱	دور کرنے والا	اگر بیوی سے جھگڑا یا ناچاقی ہو تو بستر پر لیٹے وقت ۲۰ مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھا کرے انشاء اللہ جھگڑا اور ناچاقی دور ہو جائے گی اور باہمی انس و محبت پیدا ہو جائے گی۔ جو شخص بکثرت اس اسم مبارک کا ورد رکھے گا انشاء اللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی خاص اور جائز مقصد کیلئے پڑھے تو انشاء اللہ وہ حاصل ہو جائے گا۔
۹۱	اَلْصَّلَیُّ ۱۰۰۱	ضرر پہنچانے والا	جو شخص شب جمعہ میں سو (۱۰۰) مرتبہ "یا صلا" پڑھا کرے وہ انشاء اللہ تمام ظاہری اور باطنی آفتوں سے محفوظ رہے گا اور قرب خداوندی اسے حاصل ہوگا۔

نمبر شمار	اسماءِ حسنیٰ	معنی	خواص اور فوائد
۹۲	النَّافِعُ ۱۶۱	نیفہ پہنچانے والا	جو شخص کشتی یا کسی اور سواری میں سوار ہونے کے بعد ”یا نافع“ کثرت سے پڑھتا رہے انشاء اللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ یا کسی بھی کام کے شروع کرتے وقت ۴۱ مرتبہ ”یا نافع“ پڑھ لیا کرے انشاء اللہ کام حسبِ منشا ہوگا۔ جو شخص بیوی سے جماع کے وقت یہ اسم مبارک پڑھ لیا کرے اسے انشاء اللہ اولادِ صالح نصیب ہو اور بیوی کو اس سے محبت ہوگی۔
۹۳	النُّورُ ۲۵۶	سربلایا نور اور نور بخشنے والا	جو شخص شبِ جمعہ میں سات مرتبہ سورۃ نور اور ایک ہزار ایک مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھا کرے تو انشاء اللہ اس کا دل نورانی سے منور ہو جائے گا۔
۹۴	الْهَادِي ۲۰	سیدھا راستہ دکھانے والا اور اس پر چلا کر دینا والا	جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بکثرت ”یا هَادِي“ پڑھے اور اخیر میں چہرہ پر ہاتھ پھیرے تو اس کو انشاء اللہ کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اہل معرفت میں شامل ہوگا۔ یہ عمل اہل حکومت کے لئے بھی مناسب ہے۔
۹۵	الْبَدِيعُ ۸۶	پہلا مثال چیزوں کو ایجاد کرنے والا	جس شخص کو کوئی غم یا مصیبت یا کوئی بھی مشکل پیش آئے وہ ایک ہزار مرتبہ ”یا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ“ پڑھے، انشاء اللہ کشائشِ نصیب ہوگی جو شخص اس اسم مبارک کو با وضو پڑھتے ہوئے سو جائے تو جس کام کا

نمبر شمار	اسماء حسنی	معنی	خواص اور فوائد
			<p>ارادہ ہو وہ یقیناً خواب میں نظر آجائے گا۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد "یا بَدِیْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ یا بَدِیْعُ" بارہ سو بارہ مرتبہ بارہ دن پڑھے گا تو جس کام یا مقصد کے لئے پڑھے گا انشاء اللہ وہ پورا عمل ختم ہونے سے پہلے حاصل ہو جائے گا۔ (آزمودہ ہے)</p>
۹۶	الْبَاقِی ۱۱۳	بہمیشہ ہمیشہ بانی لینے والا	<p>جو شخص اس اسم مبارک کو ایک ہزار مرتبہ جمعہ کی رات میں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے ضرر و نقصان سے محفوظ رکھیں گے اور انشاء اللہ اس کے تمام نیک عمل مقبول ہوں گے۔</p>
۹۷	الْعَاقِرِ ۷۰۷	سب کے بعد موجود رہنے والا	<p>جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سو مرتبہ "یا وَاَرِثُ" پڑھے گا انشاء اللہ ہر رنج و غم اور سختی و مصیبت سے محفوظ رہے اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اور جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان ایک ہزار مرتبہ پڑھے ہر طرح کی تکلیف و پریشانی سے انشاء اللہ محفوظ رہے گا اور حیرت دفع ہوگی۔</p>
۹۸	الرَّشِیْدُ ۵۱۴	راستی اور نیکوئی پسند کرنے والا	<p>جس شخص کو اپنے کسی مقصد یا کام کی تدبیر سمجھ میں نہ آتی ہو وہ مغرب و عشاء کے درمیان ایک ہزار مرتبہ "یا رَشِیْدُ" پڑھے تو انشاء اللہ خواب میں تدبیر نظر آجائے گی یا دل میں اس کا القاء ہو جائے گا۔ اگر روزانہ اس اسم مبارک کا</p>

نمبر شمار	اسماءِ حسنیٰ	معنی	خواص اور فوائد
			<p>ورد رکھے تو تمام مشکلات انشاء اللہ دور ہو جائیں گی اور کاروبار میں دن رات چوگنی ترقی ہوگی۔ جو شخص عشاء کے بعد اس اسم مبارک کو یومیہ سو بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کے اسباب پیدا فرمادیں گے انشاء اللہ۔</p>
۹۹	الصَّبُورُ ۲۹۸	نہ جبر و تحمل والا	<p>جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے سو مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے وہ انشاء اللہ اس دن ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور دشمنوں، حاسدوں کی زبانیں بند رہیں گی۔ جو شخص کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو وہ ایک ہزار بیس مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھے انشاء اللہ اس سے نجات پائے گا اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔</p>

کتابوں میں تو ان اسماء مبارکہ کے اور بھی بے شمار خواص اور فضیلتیں مذکور ہیں مگر اخلاص و اعتقاد اور یقین و ایمان کے ساتھ اس قدر بھی کافی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اسماء مبارکہ کی برکات سے نوازے اور دنیا اور آخرت میں انہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔

نوٹ: اسماءِ حسنیٰ کے کالم میں ہر اسم مبارک کے نیچے اس اسم پاک کے اعداد ابجد بھی لکھ دئے گئے ہیں۔

منزل

منزل

حامداً و مصلياً و مُسليماً

ذیل میں جن قرآنی آیات کو درو کیا گیا ہے وہ ”منزل“ کے نام سے معروف ہیں۔ نقش و تعویذات کے مقابلہ میں آیات قرآنیہ اور وہ دعائیں جو حدیث پاک میں وارد ہوئی ہیں یقیناً بہت زیادہ مفید و مؤثر ہیں۔ عملیات میں انہی چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فخر الرسل ﷺ نے دینی یا دنیاوی کوئی حاجت اور غرض ایسی نہیں چھوڑی جس کیلئے دعا کا طریقہ نہ تعلیم فرمایا ہو۔ اسی طرح بعض مخصوص آیات کا مخصوص مقاصد کیلئے پڑھنا مشائخ کے تجربات سے ثابت ہے۔

یہ منزل آسب، بحر اور بعض دوسرے خطرات سے حفاظت کیلئے ایک مجرب عمل ہے۔ یہ آیات کسی قدر کمی بیشی کے ساتھ ”القول الجلیل“ اور ”بہشتی زیور“ میں بھی لکھی ہیں۔ القول الجلیل میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں: ”یہ تینتیس (۳۳) آیات ہیں جو جادو کے اثر کو رفع کرتی ہیں اور شیاطین، چوروں اور دہاندے جانوروں سے حفاظت پناہ حاصل ہو جاتی ہے۔“

اور بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں: ”اگر کسی پر آسب کا شبہ ہو تو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک دیں اور اگر گھر میں اثر ہو تو ان کو پانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔“

حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کا مدد صلوٰی لکھتے ہیں: ”ہمارے گھر کی مستورات کو یہ مشکل پیش آتی کہ جب وہ کسی مریض کیلئے اس منزل کو تجویز کرتیں تو اصل کتاب میں نشان لگا کر یا نقل کر کر دینی پڑتی۔ اسلئے خیال ہوا کہ اگر اس کو علیحدہ ایک مستقل باب کی شکل میں طبع کر دیا جائے تو سہولت ہو جائے گی۔“

یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ عملیات اور دعاؤں میں زیادہ دخل پڑھنے والے کی توجہ اور یکسوئی کو ہوتا ہے۔ جتنی توجہ اور عقیدت سے دعا پڑھی جائے اتنی ہی مؤثر ہوتی ہے۔ اللہ کے نام اور اس کے کلام پاک میں بڑی برکت ہے۔ واللہ الموفق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ ۝ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّآلِّیْنَ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَللّٰمَّ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ هُدًی لِّلْمُتَّقِیْنَ ۝ الَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ

وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَى
هُدًى مِنْ رَبِّكَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝
وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ لَا إِكْرَاهَ
فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اللَّهُ وَلِيُّ
الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى
الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۝ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَت ٢٥٥)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ۝ اَمَنْ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ
مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اَمَنْ بِاللّٰهِ
وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نَفَرِقُ
بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا

وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝
 لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا
 كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا
 لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ شِئْنَا أَوْ آخِطَانَا رَبَّنَا
 وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
 عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاقْفُ
 وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (سورة البقرة آخرى آيات)
 شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
 وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (سورة آل عمران آيت ١٨)
 قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ
 مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
 وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيدِكَ
 الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ
وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ
تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○ (آل عمران، آيت ٢٦، ٢٧)
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ
حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ
بِأَمْرِهِ أَلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ أَدْعُوا رَبَّكُمْ
تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ○ (سورة الاعراف آيت ٥٤ تا ٥٦)
قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا
تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُوا

بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ
 ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ
 فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيِ
 وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا ۝ (سورة بنى اسرائيل، آيت ١١٠-١١١)
 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ
 إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ
 الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝
 وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ
 لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ
 لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ
 وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝

(سورة المؤمنون، آيت ١١٥ تا ١١٨)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 وَالصَّفِّاتِ صَفًّا ۝ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۝
 فَالْثَلَاثِ ذِكْرًا ۝ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ إِنَّا نَرِيْتَ السَّمَاءَ
 الدُّنْيَا بَرِزْنَةً ۝ الْكَوَاكِبُ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ
 كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى
 الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِّنْ كُلِّ
 جَانِبٍ ۝ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝
 إِلَّا مَن خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ
 ثَاقِبٌ ۝ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا
 أَمْ مَن خَلَقْنَا ۝ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۝
 (سُورَةُ الصُّفَّتِ، آيَاتُ ١١)

يَمْعُشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ۝ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ
 أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 فَانْفُذُوا ۝ وَلَا تَنْفُذُوا إِلَّا بِأِذْنِ
 رَبِّكُمْ ۝ تَكْذِبُونَ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا
 شَوْاظُ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرُونَ ۝
 فَبَايَ الْآءِ رَبِّكُمْ ۝ تَكْذِبُونَ ۝ فَإِذَا انْشَقَّتِ

السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ فَبِأَيِّ
 آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ
 عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ ۚ فَبِأَيِّ آلَاءِ
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ (سورة الرحمن، آيت ٣٢ تا ٣٠)
 لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ
 خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ
 الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
 هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ
 اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ
 السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
 الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
 هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(سورة الحشر، آيت ٢١ تا ٢٣)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ
 فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ يَهْدِي
 إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَمْ نُشْرِكْ بِرَبِّنَا
 أَحَدًا ۖ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ
 صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۖ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
 سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۖ (سُورَةُ الْجِنِّ، آيَاتُ ١-٤)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۖ لَا أَعْبُدُ مَا
 تَعْبُدُونَ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۖ
 وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۖ وَلَا أَنْتُمْ
 عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۖ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ
 دِينِ ۖ (سُورَةُ الْكَافِرُونَ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۖ اللَّهُ الصَّمَدُ ۖ
 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

كُفُّوا أَحَدٌ ○ (سُورَةُ اخْلَاصِ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○ وَ
مِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ○ وَمِنْ شَرِّ
حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ○ (سُورَةُ فَلَقِ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○
إِلَهِ النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○
الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ○
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○ (سُورَةُ نَاسِ)

کام کاج سویرے شروع کرو انشاء اللہ برکت ہوگی۔

صحیح الفارسی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے دعا فرمائی ہے کہ ”اے اللہ! سویرے میں میری امت کیلئے برکت عطا فرما“۔ چنانچہ خود آنحضرت ﷺ جب کوئی لشکر جہاد کیلئے روانہ فرماتے تو صبح سویرے روانہ کرتے۔

کہتے ہیں کہ حضرت ضمیرؒ ایک تاجر آدمی تھے وہ اپنا تجارتی مال ہمیشہ صبح سویرے بھیجا کرتے تھے اس کی برکت سے وہ خوش حال اور سرمایہ دار ہو گئے۔ (ابن ماجہ)

قرآن پاک
کی
سورتوں
کے
فضائل

قرآن پاک کی سورتوں کے خواص

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ کی صداقت سے بھرپور الفاظ کی گواہی چودہ صدیاں گزر جانے کے باوجود تمام حقائق پورے شد و مد کے ساتھ دے رہے ہیں۔ قرآن واحد آسمانی کتاب ہے جو تحریف و ترمیم سے مبرا ہے۔ قرآن کا کھلا چیلنج ہے کہ تمام جن و انس ایک دوسرے کے مددگار و معاون بن کر بھی اس کی مثل نہیں لاسکتے۔ قرآن نے چیلنج کے طور پر ایک سورۃ کے الفاظ بھی استعمال کئے ہیں کہ کچھ نہیں تو اس کی مانند ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ۔

قرآن کی موجودہ ترتیب نزولی نہیں بلکہ توقیفی ہے جس کو حضور اکرم رسالت مآب حضرت محمد ﷺ نے اللہ کے رضا کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ بالکل ایسے جیسے کوئی ماہر جوہری نگینہ میں تمام پتھروں کو مناسب ترین اور کامل ترین ترتیب میں جڑتا ہے۔ قرآن تمام بنی نوع انسان کے تمام مسائل اور مصائب کا حل احسن ترین طریقے سے پیش کرتا ہے۔ قرآن پاک کی سورتوں اور بعض سورتوں کی آیات میں موجود سرست خزانے کی مشاہدات میں جھلک مندرجہ ذیل ہے۔

سورۃ الفاتحہ (۱)

☆ سورۃ فاتحہ کو سر کے درد کیلئے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں اول و آخر درود شریف اور دم کرے تمام درد سر اور درد شقیقہ کے درد کو مفید ہے تین دن ایسا کرے ان شاء اللہ رحمت ہوگی۔ ☆ پیٹ کے درد کیلئے نمک پر دم کر کے دیں درد والا مریض نمک کو تھوڑا تھوڑا چکھا کرے، بخار اور درجہ حرارت کیلئے سات بار پانی پر دم کر کے پلائیں۔ انشاء اللہ مفید ہوگا۔ ☆ مسخرات کیلئے اکٹالیس بار بعد سنت فجر قبل فرض اول و آخر درود شریف سات سات بار دعا زاری سے کیا کریں۔ ☆ فتح یابی کیلئے گیارہ بار پرہ کر اپنے کام کو جاری رکھیں۔ ☆ مشکل کشائی کیلئے اکیس بار پڑھیں۔ ☆ اگر زوجین کے درمیان محبت نہیں تو اکیس بار کسی شرینی وغیرہ پر پرہ کر چند ایام تک زوجین کو کھلا دے۔ ☆ جسکو محبت ہے وہ دوسرے بے محبت پر بسم اللہ کے ساتھ تین بار پرہ کر دم کرتا رہے اس کو محبت ہو جائے گی۔ ☆ اول و آخر درود شریف ہر کام کے ساتھ پڑھیں اور سورۃ الفاتحہ ہر دکھ کی دوا ہے۔

فوائد سورة البقرة وآل عمران (۳،۲)

☆ جس گھر میں یہ سورتیں تین دن رات پڑھی جائیں جن و شیاطین اس گھر میں داخل نہ ہوں گے اور پڑھنے والے پر قیامت کے دن سایہ کریں گی۔ جس پر سحر ہو چکا ہو وہ ان سورتوں کی کثرت سے تلاوت کرے سحر دور ہو جائے گا۔

☆ جس گھر میں سورة البقرة کی آخری دو آیتیں تین راتیں پڑھی جائیں اس میں شیطان قریب نہیں آتے رات کو پڑھی جائیں اگر اس میں موت آگئی تو اس کی مغفرت ہوگی اور چور وغیرہ جیسی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔

خواص آیۃ الکرسی

☆ جو شخص ان آیتوں کو ہر روز ہر نماز کے بعد پڑھا کرے شیطان کے دوسو سے اور سرکش شیطان کے مکر و فریب و ایذا سے محفوظ رہے گا۔ اگر فقیر ہوگا تو مالدار ہو جائے گا۔ اور حق تعالیٰ اس کو ایسے طریق سے روزی عطا فرمائیں گے جس کا وہ ہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ صبح و شام اور گھر میں داخل ہوتے وقت اور بستر پر لیٹتے وقت ہمیشہ پڑھنے سے حر، سرق و عرق سے محفوظ رہے گا۔ صحت نصیب ہوگی اور ہر قسم کے خوف اور اندیشہ سے سالم رہے گا۔ اگر ان آیات کو ٹھیکری پر لکھ کر غلہ میں رکھ دیں تو وہ چوری اور گھن سے محفوظ رہے گا۔ برکت ہوگی۔ اس آیت کو دکان میں یا مکان میں اونچی جگہ رکھ دیں تو رزق میں زیادتی ہوگی۔ فاقہ نہ ہوگا اور وہاں چور نہ آئے گا۔

آیۃ الکرسی ہم لبھا خالدون نمک پڑھیں۔

☆ آیت الکرسی کے ایک سو ستر حروف ہیں جو شخص اس تعداد کے مطابق آیۃ الکرسی پڑھ کر حق تعالیٰ سے جو مراد مانگے گا ملے گی۔ درجہ اور مرتبہ میں ترقی ہوگی۔ رزق میں اضافہ ہوگا قرض ادا ہو جائے گا اور شیطان اور جنات کی شرارت سے محفوظ رہے گا۔ عمر پھر عیش و آرام سے رہے گا۔ اور کوئی شخص قول یا فعل سے کسی قسم کا ایذا نہ پہنچائے گا لوگوں کی نظروں میں معزز و مکرم بن جائے گا۔

☆ جو شخص بے روزگار ہو ملازمت نہ ملتی ہو یا غنیٰ یا فقیہ یا دُعا کی تین ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر آیت الکرسی ایک سو ستر مرتبہ پڑھے گا نوکری مل جائے گی۔

☆ نمک کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لیں اور ہر کنکری پر سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں ایک کنکری روزانہ چوبیس بلغم دور ہوگا۔

☆ جو شخص ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس کے پاس شیطان نہ آئے گا اور اگر کوئی شخص آیت الکرسی تیرہ سو مرتبہ پڑھے گا سب حاجتیں پوری ہوں گی اور ظالم و جابر حاکم مہربان ہوگا۔

☆ مریگی کے مریض پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر پھونکیں تو اس کا دورہ دور ہو جائے گا۔

☆ اگر رات کو سوتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو گھر میں چور ڈاکو آسب جن سے محفوظ رہے گا۔ اور انسان ڈراؤنے خوابوں سے بچا رہے گا۔

خواص سورة النساء (۴)

☆ اس سورہ کی تلاوت سے گناہوں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اگر کوئی عورت مرد نامیہ مبتلا ہوں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں سات مرتبہ سورة النساء پڑھ کر اس کا پانی پلائے اس کی برکت سے انشاء اللہ تعالیٰ نیک صالح ہو جائیں گے۔

خواص سورة المائدة (۵)

☆ اگر کوئی شخص با وضو ۴۱ مرتبہ سورة المائدہ کو پڑھے تو اس کے گھر والے فاقہ سے محفوظ رہیں اور اس کا پڑھنے والا دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں عزیز ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

خواص سورة الانعام (۶)

☆ جو شخص الانعام کو با وضو اکتالیس مرتبہ پڑھے تو انشاء اللہ تعالیٰ ہر مشکل حل ہوگی اور ہر مقصد میں کامیابی ہوگی۔

خواص سورة الاعراف (۷)

☆ اگر کوئی شخص با وضو عرق گلاب اور زعفران سے سورہ اعراف کو پاک کاغذ پر لکھے اور موم جامہ کر کے اپنے پاس رکھے وہ انشاء اللہ تعالیٰ آنکھ کی تکلیف اور آنکھ کے زخم سے صحت یاب ہوگا۔

خواص سورة الانفال (۸)

☆ اگر کوئی ناحق قید ہو گیا ہو تو اس کی روزانہ تلاوت سے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رہا ہو جائے۔ نیز اس کا پڑھنے والا ہمیشہ کامیاب رہے، عزت حاصل ہو دشمنوں پر ہیبت طاری ہو اگر کسی شخص کو ظالم حاکم یا عدالت میں جانا پڑے اور پریشان ہو تو اس کو چاہیے کہ سورة الانفال

لکھے اور موسم چاند کر کے گلے میں ڈالے یاد آئیں بازو پر باندھے۔ انشاء اللہ تعالیٰ حاکم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔

خواص سورۃ یونس (۱۰)

☆ دشمن پر غلبہ پانے اور غلبہ حاصل کرنے کیلئے سورۃ یونس کی تلاوت بہت اکسیر ہے۔ اس کی کثرت سے تلاوت آدمی کو فتح و ظفر سے ہمکنار کرتی ہے۔ ہر مشکل کیلئے اس کی تلاوت اس مشکل کو آسان بنا دیتی ہے۔

خواص سورۃ ہود (۱۱)

☆ ہر مشکل گھڑی میں سورہ ہود کی تلاوت بہت فائدہ مند ہے اس کے پڑھنے سے دشمن مغلوب رہتا ہے۔

خواص سورۃ یوسف (۱۲)

☆ ہر قسم کی حاجت براری اور ضرورت کیلئے سورہ یوسف کی تلاوت بہت اہم ہے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو یا نوکری سے نکال دیا گیا ہو تو اس کی کثرت سے تلاوت کرے انشاء اللہ واپس اپنے عہدے پر بحال ہوگا۔ اگر کوئی غریب و نادار ہو تو اس کی تلاوت کرنے سے بحکم خدا غنی اور مال دار ہوگا۔

☆ جو شخص قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے سورۃ یوسف حفظ کرے انشاء اللہ قرآن پاک بآسانی حفظ ہوگا۔

خواص سورہ رعد (۱۳)

☆ اگر بچہ کثرت سے روتا ہو تو اس پر دم کرنے سے بچہ ہشاش بشاش رہے اس کا نقش با وضو لکھ کر گلے میں ڈالے یاد آئیں بازو پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ وہ شخص آسیب یا جن کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ اور ظالم حاکم سے محفوظ رہے گا۔

☆ جیل خانہ سے رہائی کیلئے با وضو مغرب اور عشاء کے درمیان اکیس بار پڑھیں اور اگر بچہ روتا ہو تو تین بار پڑھ کر بچے پر دم کریں۔ مجرب ہے۔

خواص سورۃ ابراہیم (۱۴)

☆ یہ سورہ سحر سے نجات کیلئے بہت مفید ہے۔ اگر کسی شخص کی قوت مردمی سحر کے ذریعے باندھ دی گئی ہو تو روزانہ ۳ بار سورۃ ابراہیم تلاوت کرنے سے سحر باطل ہوگا اور قوت مردمی بحال ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مراد اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا۔

خواص سورۃ الحجر (۱۵)

☆ اگر جگر بڑھ گیا ہو یا سخت ہو گیا ہوسات بار پیٹ پر دم کریں تکلیف جاتی رہے گی۔
☆ اگر کوئی شخص سورۃ الحجر کو زعفران کے پانی سے با وضو لکھے اور پاک پانی سے دھو کر عورت کو پلائے تو بحکم خدا اس کا دودھ بہت زیادہ ہوگا۔
☆ جب کوئی چیز خریدے یا فروخت کرے اگر اس پر سورہ الحجر پڑھ کر دم کرے تو اس مال میں برکت ہوگی۔

سورۃ النحل (۱۶)

☆ اگر کسی شخص کے دشمن اسے جان سے مارنا چاہتے ہوں اور اسے ہلاکت کا خوف ہو تو سورۃ النحل کو ایک بیٹھک میں ایک آدمی یا کئی آدمی ایک سو مرتبہ پڑھیں انشاء اللہ تعالیٰ دشمن اس کے فرماں بردار ہوں گے اور اگر اطاعت نہ کی تو پریشان اور ذلیل ہوں گے۔
☆ اگر کسی کے دشمن ایک جگہ جھٹا بنا کر نقصان پہنچانا چاہتے ہوں تو سورہ النحل کو تین مرتبہ پڑھے انشاء اللہ دشمن منتشر ہوں گے۔

سورۃ الاسریٰ (۱۷)

☆ سورہ الاسریٰ کا روزانہ با وضو تین مرتبہ پڑھنا دو جہاں کی ترقی، کامیابی، حصول مراتب و عزت اور سارے جہان کی مشکل کے حل کرنے کیلئے نہایت مجرب اور مفید ہے۔
☆ اگر کسی بچے کی زبان میں لکنت ہے اور وہ بات کرنے میں اکتا ہے یا بات کرتے وقت اس کی زبان پھرتی ہے تو عرق گلاب میں زعفران کو حل کر کے پاک کاغذ پر سورۃ بنی اسرائیل کو لکھے اور پانی سے گھول کر روزانہ بچے کو پلائے تو کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بچے کی زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی۔

☆ اگر لڑکا یا لڑکی کند ذہن ہو اور سبق یاد نہ ہوتا ہو یا یاد کر کے بھول جاتا ہو تو با وضو ہو کر عرق

گلاب میں زعفران کو حل کر کے اس سے پوری سورۃ الاسرئ کو لکھیں اور پانی میں گھول کر روزانہ پئے کو پلائے انشاء اللہ تعالیٰ اس کا ذہن کھل جائے گا۔ اور حافظہ بحال ہو جائے گا۔

سورۃ الکہف کے خواص (۱۸)

☆ سورۃ الکہف کا جمعہ کے دن پڑھنا زمین سے آسمان تک نور پیدا کرتا ہے اور آٹھ دن تک وہ نور برابر قائم رہتا ہے۔ پھر اس کے پڑھنے والے کو سارا نور قبر میں اور قبر کے بعد قیامت میں دیا جائے گا۔ اور اس سورۃ کو روزانہ تلاوت کرنا ایمان کی قوت کو زیادہ کرتا ہے اور نور ایمانی میں ترقی بخشتا ہے۔

☆ اگر کسی شخص کو رات کے وقت جاگنا منظور ہو اور کوئی جگانے والا نہ ہو اور خود بھی اٹھنے کا امید نہ ہو تو وہ شخص نماز عشاء کے بعد سورۃ الکہف پڑھ کر سو جائے انشاء اللہ تعالیٰ جس وقت اٹھنے کا ارادہ کرے گا اسی وقت آنکھ کھل جائے گی۔ (مغرب ہے)

☆ جو شخص قرض میں گرفتار ہو اور قرض اترنا مشکل ہو گیا ہو تو بعد نماز جمعہ سورۃ الکہف سات بار پڑھنے اور اللہ تعالیٰ سے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دعا مانگا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس کا قرضہ اتر جائے گا۔

☆ اس سورہ کے پڑھنے سے قیامت میں نور ملے گا اور دجال کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا اور اول و آخر کی دس آیتیں پڑھنے سے بلا اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔

سورہ مریم (۱۹)

☆ اگر کسی شخص نے کسی نوجوان کی قوت مردی ہاندھ دی ہو اور وہ پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ با وضو سورۃ مریم پڑھ کر دعا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اسکی قوت مردی بحال ہو جائے گی اگر خود پڑھنا نہ جانتا ہو تو کسی سے تین مرتبہ پڑھوا کر پانی پر دم کروالے اور روزانہ وہ پانی پئے جب تک طاقت بحال نہ ہو پانی پیتا رہے انشاء اللہ صحت یاب ہوگا۔

سورۃ طہ (۲۰)

☆ اگر کوئی شادی کے قابل ہو رشتہ نہ آتا ہو یا شادی میں رکاوٹ ہو تو 21 بار روزانہ سورۃ طہ پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ مناسب جگہ رشتہ ملے ہو جائے گا۔

☆ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ لڑکی کا رشتہ کسی نیک مرد سے ہو جائے تو سورۃ طہ کو با وضو کسی رشتہ

کپڑے پر لکھ کر موم جامہ کر کے لڑکی کے گلے میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رشتہ اور شادی کسی نیک مرد سے ہو جائے گی اور اولاد نیک پیدا ہوگی۔

خواص سورة الانبياء (۲۱)

☆ اگر کوئی شخص پریشان حال ہو اکثر پریشان اور غم زد رہتا ہو تو ہر روز با وضو تین بار سورۃ انبیاء پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ جلد ہی تمام غم اور پریشانی سے نجات حاصل ہوگی۔

خواص سورة الحج (۲۲)

☆ جب کسی شخص کو کوئی سمندری یا دریائی سفر درپیش ہو تو جہاز یا کشتی میں سوار ہونے سے قبل با وضو تین مرتبہ اس سورۃ کو پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ جہاز یا کشتی بخیریت منزل مقصود پر پہنچیں گے اور ہر قسم کے نقصان یا ڈوبنے سے محفوظ رہیں گے۔

سورة المومنون (۲۳)

☆ اگر کوئی شخص شراب، ہیروئن، چرس، سٹ، جوا، سود و زنا اور دیگر گناہوں میں بری طرح مبتلا ہو اور اسے یہ گناہ چھوڑنا مشکل معلوم ہوتا ہو تو عرق گلاب میں زعفران حل کر کے با وضو سفید کپڑے پر اس سورۃ کو لکھے اور موم جامہ کر کے گلے میں ڈالے۔ انشاء اللہ وہ شخص ان بری عادتوں سے توبہ کر لے گا۔

خواص سورة النور (۲۴)

☆ اگر کسی شخص کو دشمن بہت تنگ کرتے ہوں اور طرح طرح سے زبان درازی اور تہمت بازی کرتے ہوں تو اس سورۃ کو روزانہ با وضو دن میں کسی وقت ایک ہی بیٹھک میں پانچ مرتبہ پڑھ لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ دشمن کی زبان چغلی، الزام تراشی اور نقصان پہنچانے سے باز رہے گی۔

☆ اگر کسی شخص کو کثرت سے احتلام ہوتا ہو تو روزانہ با وضو ہو کر تین بار اس سورۃ کو پڑھ کر اپنے اوپر اور پانی پر دم کر کے پانی پی لے تو انشاء اللہ احتلام سے محفوظ رہے گا۔

خواص سورة الفرقان (۲۵)

☆ دشمن کی ہلاکت کیلئے روزانہ اڑتیس بار اس سورۃ کو پڑھے بگم خدا دشمن ہلاک ہوگا۔ اس

عمل کو کرنے سے قبل کسی عالم دین اور خدا ترس شخص سے مشورہ کرے ورنہ قتل کا گناہ ہوگا۔
☆ اگر کسی کو کوئی ظالم شخص ناحق ستاتا ہو اور ہر وقت درپے آزار رہتا ہو تو اس سورۃ کو ایک سو آٹھ بار پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔

خواص سورۃ الشعراء (۲۶)

☆ اگر کوئی لڑکا یا نوکر گھر سے بھاگنے کا عادی ہو تو سورۃ الشعراء کو با وضو لکھ کر موم جامہ کر کے لڑکے یا نوکر کی گردن میں باندھ دے خدا تعالیٰ کے حکم سے بھاگنے سے رک جائے گا اور گھر میں اس کا دل لگے گا۔

☆ اگر کوئی شخص خوف و ڈر کی وجہ سے پریشان ہو تو سورۃ الشعراء کو با وضو سات بار پڑھ کر دعا کرے انشاء اللہ تعالیٰ خوف و ڈر سے آزاد ہو جائے گا اور کسی قسم کی پریشانی باقی نہ رہے گی۔

خواص سورۃ النمل (۲۷)

☆ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کیلئے سورۃ النمل کو دس بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے گا اور غم و فکر سے آزادی نصیب ہوگی۔

☆ اگر کسی شخص کو ضروری حاجت پیش آئے تو سورۃ النمل ایک ہفتہ کیلئے روزانہ ایک بار با وضو پڑھ لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری ہوگی۔

☆ اگر کوئی شخص ہرن کی کھال پر اس سورۃ کو با وضو لکھ کر اپنے صندوق یا گھر میں رکھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ گھر سانپ بچھو اور موذی جانوروں سے محفوظ رہے گا۔

خواص سورۃ القصص (۲۸)

☆ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو سورۃ القصص تین روز تک با وضو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مریض صحت یاب ہوگا۔

☆ اگر کوئی شخص غائب ہو گیا تو اور اس کا پتہ نہ چلتا ہو تو سورۃ القصص کو با وضو ۴۲ بار پڑھیں انشاء اللہ غائب شخص بخیر و خوبی گھر لوٹ آئے گا۔

☆ اگر کوئی بیمار ہو، پیٹ میں درد رہتا ہو یا اسے استسقاء یا جذام کی بیماری کا ڈر ہو تو اس سورۃ کا نقش لکھ کر موم جامہ کر کے اپنے گلے میں ڈال لے انشاء اللہ صحت ہوگی اور ایسی کوئی بیماری اس پر حملہ نہ کرے گی۔

خواص سورۃ العنکبوت (۲۹)

☆ اگر کوئی شخص رنج و غم میں مبتلا ہو تو سورۃ العنکبوت با وضو ہو کر عرق گلاب میں زعفران کو حل کر کے لکھے اور اس کو پانی میں گھول کر پئے انشاء اللہ تعالیٰ اس پانی کے پینے سے اس کا رنج و غم دور ہوگا۔

خواص سورۃ الروم (۳۰)

☆ اگر کسی کا دشمن بہت عیار و چالاک ہو اور اپنی شرارتوں سے ہر وقت پریشان رکھتا ہو تو سورۃ الروم کو اکیس مرتبہ پڑھے انشاء اللہ دشمن ذلیل ہوگا اور ہمیشہ ناکام رہے گا اور ہر طرح دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔

☆ اگر کوئی چاہے کہ دشمن اس کا ذلیل ہو اور اسے فتح حاصل ہو اور دشمن کو قدم قدم پر ناکامی ہو تو سورۃ الروم کو با وضو کاغذ پر لکھے اور اس کو لپیٹ کر ایک بوتل میں رکھ دے اور سخت ڈاٹ سے اس بوتل کا منہ بند کر کے اپنے مکان میں رکھے انشاء اللہ دشمن ذلیل و خوار رہے گا۔

☆ اگر میاں بیوی میں جھگڑا رہتا ہو تو با وضو اس سورۃ کو لکھ کر شیشی میں بند کر کے مظلوم اپنے پاس رکھے تو ظالم ظلم و زیادتی سے باز رہے اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں میں اتفاق قائم ہو جائے گا۔

خواص سورۃ لقمان (۳۱)

☆ اگر کسی شخص کے پیٹ میں شدید درد ہو یا پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو سورۃ لقمان کو سات بار پڑھ کر پیٹ پر دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ پیٹ کا درد جاتا رہے گا اور پیٹ کے مرض سے صحت حاصل ہوگی۔

☆ ہر بیماری سے صحت کیلئے با وضو قین بار پڑھ کر بیمار پر دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ مریض صحت یاب ہوگا۔

☆ اگر کوئی شخص ہر وقت دریا یا سمندر کے سفر پر رہتا ہے تو اگر سفر کرنے سے قبل ایک مرتبہ اس سورۃ کو پڑھ لے تو انشاء اللہ تعالیٰ بخیر و عافیت اپنے مقام پر واپس ہوگا اور سفر میں ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔

☆ اگر کسی شخص کے پیٹ میں ہمیشہ درد رہتا ہو اور اس بیماری سے پریشان ہو تو سورۃ لقمان کا

نفس با وضو لکھ کر پیٹ پر باندھے اور سورۃ لقمان ایک مرتبہ روزانہ پڑھ کر دم کر لیا کرے انشاء اللہ اس مرض سے نجات حاصل ہوگی۔

خواص سورۃ السجدہ (۳۲)

☆ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور کسی طرح صحت بحال نہ ہوتی ہو تو با وضو سات بار سورۃ السجدہ کو پڑھے اور بیمار پر دم کرے انشاء اللہ تعالیٰ بیمار صحت یاب ہوگا۔

☆ اگر کسی شخص کو مختلف امراض نے گھیر رکھا ہو تو اس کیلئے سورۃ السجدہ کو با وضو عرق گلاب میں زعفران حل کر کے لکھے اور مریض کو پلائے انشاء اللہ تمام بیماریوں سے شفا حاصل ہوگی اور بیمار تندرست ہو جائے گا۔

☆ سورۃ السجدہ کو لڑکیوں کا نصیب کھولنے کیلئے کہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے اکیس مرتبہ روزانہ پڑھے انشاء اللہ بہت اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔

خواص سورۃ الاحزاب (۳۳)

☆ میاں بیوی میں نا اتفاقی اور عدم موافقت کو دور کرنے کیلئے سورۃ الاحزاب کا با وضو پڑھنا بہت کارآمد ہے۔ انشاء اللہ اس کے پڑھنے سے اہل خانہ میں محبت و اتفاق پیدا ہو جائے گا۔

☆ اگر کوئی ظالم شخص کسی مجبور و بے کس پر ناحق ظلم کرتا ہے اور ظلم و تعدی سے باز نہیں آتا تو سورۃ احزاب کو با وضو سات بار پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے نجات حاصل ہوگی اور ظالم مطیع و فرماں بردار ہوگا۔

☆ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو یا بات لگ کر چھوٹ جاتی ہو یا بار بار شادی میں رخصت پڑ جاتا ہو تو سورۃ احزاب با وضو لکھ کر موم جامہ کر کے لڑکے کے دائیں بازو پر اور لڑکی کے بائیں بازو پر باندھے انشاء اللہ تعالیٰ بخت کھلے گا اور اچھی جگہ رشتہ ہو جائے گا۔ اور جملہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔

خواص سورۃ سبا (۳۴)

☆ اگر کسی کے دشمن ناحق ستاتے ہوں اور ہر وقت تکلیف پہنچانے کا بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہوں تو ان کیلئے روزانہ با وضو دس بار سورۃ سبا پڑھی جائے تاکہ دشمن دفع ہو اور اس کے ظلم سے نجات حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سورہ کا پڑھنے والا ظلم سے محفوظ رہے گا۔

☆ اگر کوئی شخص سورۃ سہا با وضو سفید کاغذ پر لکھ کر موم جامہ کر کے سفید کپڑے میں لپیٹ اپنے داہنے بازو پر باندھے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کے موذی جانوروں سے حفاظت رہے گی۔

خواص سورۃ فاطر (۳۵)

☆ اگر کسی حاکم کو درخواست دینی ہے یا ملازمت یا کسی اور کام کیلئے عرضی پیش کرنی ہے تو چاہیے کہ با وضو ہو کر سورۃ فاطر کو ۵ بار پڑھے اور درخواست پر انگلی سے بغیر روشنی کے اپنا مطلب لکھے اور درخواست حکام کو بھیج دے۔ انشاء اللہ اس کی درخواست منظور ہوگی۔ مطلب حاصل ہوگا۔

سورۃ یسین (۳۶)

☆ مشکلات و تکالیف آفات و بلیات سے نجات اور اہم مقاصد میں کامیابی کیلئے سورۃ یسین با وضو اس طرح پڑھے کہ ہر مبین پر یا اللہ یا اللہ یا رحمن یا رحیم گیارہ دفعہ پڑھے اور جب کلمہ "لکن" اذآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ لَكُنْ فَيَكُوْنُ پڑھے تو یا اللہ یا غنی یا معنی یا فتاح پڑھ کر ختم کر دے انشاء اللہ تمام تکالیف کا ازالہ ہو جائے گا۔

☆ با وضو سورۃ یسین پڑھ کر سرمہ پر دم کر کے آنکھوں میں روزانہ بلاناغہ لگایا کرے انشاء اللہ موتیا دور ہو جائے گا۔

☆ سورۃ یسین روزانہ با وضو بعد نماز عشاء سات بار پڑھے یہ عمل قرض کی ادائیگی کیلئے اکسیر ہے۔ انشاء اللہ جلدی ہی قرض سے نجات حاصل ہوگی۔

☆ سورۃ یسین عرق گلاب میں زعفران حل کر کے اس سے با وضو لکھیں اور عرق گلاب میں حل کر کے اکتالیس دن پیئیں۔ انشاء اللہ بھول چوک کے مرض سے نجات حاصل ہوگی۔

☆ سورۃ یسین کو با وضو اس ترکیب سے پڑھے پہلے مبین سے لوٹ کر دوبارہ پڑھنا شروع کرے جب دوسرے مبین پر پہنچے تو پھر لوٹ کر شروع سے پڑھے اسی طرح ساتویں مبین پر پہنچے تو لوٹے بغیر سورۃ ختم کر لے پھر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے بارش کا پانی میسر آ جائے تو بہتر ہے ورنہ جو پانی مل جائے اس پر دم کریں اور مریض کو پلائیں یہ عمل گیارہ روز تک بلاناغہ کرے انشاء اللہ دل کے مرض سے نجات حاصل ہوگی۔

☆ جس عورت کا دودھ ختم ہو جائے اور بچہ بھوکا رہتا ہو تو سورۃ یسین با وضو کسی چینی کی پلیٹ پر

یا کاغذ پر لکھے اور پانی میں گھول کر عورت کو پلائے انشاء اللہ عورت کا دودھ زیادہ اور بچہ سیر ہوگا۔
 ☆ دل کی سختی دور کرنے اور دل میں نرمی اور شفقت پیدا کرنے گناہوں سے بچنے اور بزرگوں کی نصیحت پر عمل کرنے کیلئے سورۃ یٰسین یا وضو کسی چینی کی پلیٹ یا کاغذ پر لکھے اور اس شخص کو پلائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا دل نرم ہوگا نماز روزہ کی توجہ ہوگی اور بزرگوں کی نصیحت پر عمل کرنے کیلئے دل آمادہ ہوگا۔

☆ خشک سالی سے نجات اور بارش رحمت طلب کرنے کیلئے یا وضو سورۃ یٰسین ۵۷ بار یا اکتالیس بار پڑھے انشاء اللہ بارش رحمت خوب برے گی اور فصل اور کھیتی خوب سیراب ہوگی۔
 ☆ اگر کوئی شخص قید میں ہو اور اس کی رہائی ناممکن یا مشکل ہو تو یا وضو ۵۷ بار سورۃ یٰسین پڑھے اور اکیلا نہ پڑھ سکتا ہو تو چند آدمی مل کر پڑھ لیں انشاء اللہ تعالیٰ قیدی جلدی ہی قید سے رہا ہوگا۔
 ☆ ایک بار صبح و شام اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے پڑھے گا تو رضا اور محبت نصیب ہوگی اور شفا کیلئے پڑھے گا تو شفا نصیب ہوگی اگر ایمان کی سلامتی کیلئے پڑھے گا تو ایمان سلامت رہے گا۔ اگر دفع سکرّات موت کیلئے پڑھے گا تو آسانی نصیب ہوگی۔

☆ دولت کے حصول کیلئے ۷۰ بار روزانہ پڑھتا رہے دولت مند ہو جائے گا اور دفعہ دشمن کیلئے پڑے گا تو دشمن دفع ہوں گے جس کام کیلئے پڑھے گا وہ کام آسان ہو جائے گا۔
 ☆ جو شخص سورۃ یٰسین کا ورد صبح و شام رکھے گا بھوکا نہ رہے گا۔
 ☆ دشمن کو ہلاک کرنے کیلئے کچی اینٹوں کے ٹکڑوں پر سورۃ یٰسین سات بار پڑھ کر دم کریں اور ان ٹکڑوں کو جنازہ کی طرح کپڑے میں لپیٹ کر بہتے پانی میں ڈال دیں۔ جب وہ ٹکڑے پانی میں گل جائیں گے دشمن بھی ہلاک ہو جائے گا۔
 نوٹ: غیر شرعی طور پر اس وظیفے کو کرنے والا نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔

سورة الصُّفَّت (۳۷)

☆ سورۃ الصُّفَّت سات بار یا وضو پڑھے تو انشاء اللہ اسکی روزی میں برکت ہوگی اور اسکی روزی فراخ ہوگی۔

سورة ص (۳۸)

☆ اگر کوئی شخص دشمنوں سے پریشان ہو تو سورۃ ص کو یا وضو سات بار پڑھ کر دعا کرے انشاء اللہ تعالیٰ دشمن دفع ہوں گے اور ان کے شر سے ہر طرح محفوظ رہے گا۔

سورة الزمر (۳۹)

☆ اگر کوئی شخص چاہے کہ کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ روزانہ با وضو سات بار سورة الزمر پڑھے انشاء اللہ عزت دوبارہ حاصل ہوگی۔

☆ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کا مال خوب بڑھے تو اسے چاہیے کہ روزانہ با وضو سات بار سورة الزمر پڑھے انشاء اللہ مال میں اضافہ ہوگا۔

سورة المؤمن (۴۰)

☆ اگر کسی کو کوئی بڑی اہم مہم درپیش ہو اور وہ حل نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ سورة المؤمن کو ایک سو مرتبہ با وضو پڑھے یا چند آدمی مل کر پڑھ لیں اور دعا کریں انشاء اللہ تعالیٰ کتنی ہی بڑی مشکل ہو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہوگی اور پریشانی سے نجات حاصل ہوگی۔

☆ جس شخص کو پھوڑے پھنسی نکلے ہوں یا کوئی شخص بیمار ہو تو سورة المؤمن کو ایک بار با وضو روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور پانی پر دم کر کے پی لے یا اگر کوئی دوسرا شخص بیمار ہو تو اس کو پڑھ کر دم کر دیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے صحت ہوگی۔

سورة حم سجدہ (۴۱)

☆ اگر کوئی مشکل پیش آگئی ہو یا کوئی اہم حاجت پیش آگئی ہو یا کسی مقصد میں ضرور کامیابی چاہیے تو با وضو نماز فجر کے بعد سات بار سورة حم سجدہ پڑھے انشاء اللہ مشکل حل ہوگی۔ حاجت پوری ہوگی اور مقصد میں کامیابی ہوگی۔

☆ جس شخص کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو یا ناخونہ ہو یا غفرہ ہو یا پھولا وغیرہ ہو تو با وضو پوری سورة حم سجدہ لکھ کر بارش کے پانی میں گھول کر اس کا پانی آنکھ میں لگائے یا اس کے پانی میں سرمہ پیس کر آنکھوں میں لگاتے رہیں انشاء اللہ سفیدی زائل ہوگی اور آنکھوں میں تکلیف سے نجات حاصل ہوگی۔

سورة الشوریٰ (۴۲)

☆ اگر کسی شخص کو دشمن کا خوف ہو تو اسے چاہیے کہ با وضو سورة الشوریٰ روزانہ بعد نماز فجر تین بار پڑھے انشاء اللہ دل سے دشمن کا خوف نکل جائے گا۔

☆ اگر کوئی شخص ظالم کے پھندے میں پھنس گیا ہو تو اسے چاہیے کہ با وضو روزانہ نماز فجر کے

بعد ایک بار سورۃ الشوریٰ پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ دشمنوں پر غالب رہے گا اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر با وضو اس سورۃ کو لکھ کر موم جامہ کر کے اپنے گلے میں ڈال دے تو انشاء اللہ تعالیٰ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔

سورۃ الزخرف (۴۳)

☆ اگر کوئی شخص مقصد میں کامیابی چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ من کی مراد پوری ہو تو اسے چاہیے کہ مقصد حاصل ہونے تک روزانہ با وضو آٹھ مرتبہ سورۃ الزخرف پڑھ لیا کرے انشاء اللہ مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی۔

سورۃ الدخان (۴۴)

☆ ہر قسم کی بلاؤں سے نجات کیلئے سورۃ الدخان تیر بہدف ہے۔ با وضو چند آدمی مل کر پچاس مرتبہ پڑھ لیں انشاء اللہ مکان ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔
☆ بعض دفعہ مرنے والے کی جان اٹک جاتی ہے اور موت نہیں آتی ایسی صورت میں چند آدمی مل کر پچاس مرتبہ با وضو سورۃ الدخان پڑھ کر مریض پر دم کریں اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں یا اس کے چہرے پر وہ پانی ملیں انشاء اللہ آسانی سے روح قبض ہوگی۔

خواص سورۃ الجاثیہ (۴۵)

☆ اس سورہ مبارکہ کو با وضو لکھ کر موم جامہ کر کے بچوں کے گلے میں ڈال دیں انشاء اللہ بچے جملہ آفات و بلیات سے محفوظ رہیں گے۔

سورۃ الاحقاف (۴۶)

☆ اگر بارش نہ ہوتی ہو اور کھیتی پانی نہ ہونے کے سبب سوکھ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چند دن با وضو تیرہ بار سورۃ الاحقاف پڑھے انشاء اللہ بارش ہوگی۔

سورۃ محمد (۴۷)

☆ اگر کسی کو کوئی مشکل مہم پیش آگئی ہو تو سورہ محمد کو استالیس مرتبہ چند دن پڑھے۔ اگر اکیلا پڑھنا مشکل ہو تو چند آدمی مل کر پڑھ لیں با وضو پڑھیں انشاء اللہ مشکل آسان ہوگی۔
☆ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عزت بڑھے اور لوگ اس کی عظمت کو تسلیم کریں تو اس سورۃ کو

منگ وزعفران سے لکھ کر گھول کر پی لے۔

سورة الفتح (۴۸)

☆ ہر قسم کی کامیابی اور دشمن پر فتح حاصل کرنے کیلئے سورة الفتح با وضو اس طرح پڑھے کہ اول و آخر و د شریف اکہتر اکہتر بار درمیان میں تین تین بار سورة الفتح اور سورة النصر پڑھے انشاء اللہ ہر قسم کی کامیابی حاصل ہوگی اور دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔

☆ جو شخص رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر با وضو تین بار سورة الفتح پڑھے تو بفضلہ تعالیٰ سال بھر امن و امان سے رہے گا اور ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے۔

سورة الحجرات (۴۹)

☆ اگر سورة الحجرات کو با وضو لکھ کر موم جامہ کر کے حاملہ عورت کے گھگھے میں باندھ دے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ کا حمل قائم رہے گا اور بچہ صحت و تندرستی سے پیدا ہوگا۔

☆ اگر کسی کا مادہ منویہ پتلا ہو گیا ہو اور جریان منی کی شکایت ہو تو روزانہ با وضو سورة الحجرات تین بار پڑھے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلائے اور اکتالیس دن تک یہ عمل جاری رکھیں انشاء اللہ صحت ہوگی۔

سورة ق (۵۰)

☆ پیٹ کی تمام بیماریوں کیلئے با وضو سورة ق کو لکھے اور پانی میں گھول کر چند دن میں وہ پانی پئے انشاء اللہ تعالیٰ پیٹ کی جملہ بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔

☆ پاگل پن اور دیوانگی دور کرنے کیلئے سورة ق کو با وضو لکھے اور پانی میں گھول کر مریض کو پلائے انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کے خوف ڈر اور دیوانگی سے نجات حاصل ہوگی۔

سورة الذریات (۵۱)

☆ اگر کسی ملک یا بستی میں قحط پڑ گیا ہو اور لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں تو چند آدمی مل کر سورة الذریات ستر مرتبہ روزانہ ایک وقت میں پڑھ لیا کریں جب تک قحط ختم نہیں ہو جاتا پڑھتے رہیں۔

سورة الطور (۵۲)

☆ روزانہ رات کو تین بار سورة الطور با وضو پڑھنے سے جذام اور کوڑھ کے مرض سے محفوظ رہے گا اور اگر خدا نخواستہ بیماری کے آثار شروع ہو چکے ہوں تو جلد ہی نجات حاصل ہوگی۔
☆ اگر کوئی مسافر سفر کے دوران اس سورة کو ایک بار روزانہ پڑھ لیا کرے تو انشاء اللہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا اور بحفاظت گھر واپس پہنچے گا۔

سورة النجم (۵۳)

☆ سورة النجم ۳۱ بار پڑھنا ہر قسم کی مراد پوری ہونے کیلئے اکسیر ہے۔

سورة القمر (۵۴)

☆ لوگوں میں مقبولیت عامہ حاصل کرنے کیلئے سورة القمر با وضو ظہر کے وقت لکھ کر موم جامہ کر کے اپنے پاس رکھے۔

سورة الرحمن (۵۵)

☆ خسرہ یا چھپک کی وبا پھیل رہی ہو تو اس سے حفاظت کیلئے مونگ یا لوگ پر سورة الرحمن تین بار بار وضو پڑھے اور دم کریں ان لوگوں میں سے تین یا پانچ یا سات لوگ لے کر پانی سے نکل لیں انشاء اللہ حفاظت رہے گی۔

سورة الواقعة (۵۶)

☆ روزانہ مغرب کے بعد سورة الواقعة پڑھنے سے فاقہ سے نجات حاصل ہوگی اور خوشحالی نصیب ہوگی۔

☆ اگر بارش نہ ہوتی ہو تو روزانہ سات بار پڑھ کر دعا کریں۔

سورة الحديد (۵۷)

☆ ہر قسم کی رکاوٹ دور کرنے اور ہر قسم کی بیماری کیلئے سورة الحديد تین بار پڑھے اور دعا کرے اور مریض کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے پلائے۔

سورة المجادلہ (۵۸)

☆ مایوس الطلاق مریضوں کیلئے بعد نماز عصر سورة المجادلہ تین بار پڑھ کر ہر دفعہ مریض پر

پھولیں یہ عمل ۴۰ روز تک کریں۔

سورة الحشر (۵۹)

☆ نسیان کیلئے سورة الحشر کو با وضو چھٹی کی پلٹ پر لکھ کر بارش کے پانی سے حل کر کے وہ پانی پی لے نسیان کا مرض دور اور حافظہ قوی ہوگا۔

سورة الممتحنة (۶۰)

☆ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے شرعی عذر کی وجہ سے طلاق لینا چاہتی ہو اور خاوند اس کو طلاق نہ دیتا ہو تو وہ عورت سورة الممتحنة کو گیارہ روز تک روزانہ با وضو گیارہ بار پڑھے۔
☆ اگر کوئی شخص شیطانی کاموں میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ روزانہ پانچ بار سورة الممتحنة پڑھے۔ انشاء اللہ وہ گناہوں سے باز آ جائے گا۔

سورة القف (۶۱)

☆ اہل خانہ اور اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنانے کیلئے ۷۰ بار سورة القف پڑھے

سورة الجمعة (۶۲)

☆ میاں بیوی میں الفت و محبت قائم کرنے اور جھگڑے ختم کرنے کیلئے جمعہ کے دن ۳ بار یہ سورة پڑھے اور دعا کرے۔ انشاء اللہ محبت قائم ہو جائے گی۔

سورة المنافقون (۶۳)

☆ جو کوئی شخص اس سورة کو روزانہ با وضو پڑھ کر سوئے انشاء اللہ اس کے دشمن ہمیشہ ذلیل و خوار ہوں گے اور اسے نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔

سورة التغابن (۶۴)

☆ زیور سونا چاندی مال اور روپیہ رکھ کر با وضو سات بار سورة التغابن پڑھ کر بھونک دیں انشاء اللہ کوئی چور اور ڈاکو اس کو چوری نہیں کر سکے گا۔

سورة الطلاق (۶۵)

☆ تین دن تک با وضو تین بار روزانہ پڑھ کر شدید زخموں پر دم کرنا خدا کے فضل سے زخموں کو جلد اچھا کرتا ہے۔

سورة التحريم (۶۶)

☆ جو عورت ہمیشہ روزانہ ہادوضو سورۃ تحریم پڑھے گی انشاء اللہ اس کا خاوند اسے ہمیشہ راحت و آرام سے رکھے گا اور اس کی اولاد تابع فرمان ہوگی۔

سورة الملك (۶۷)

☆ اولاد کیلئے بوقت تہجد دو رکعت نفل اکتالیس روز تک اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعت میں سورۃ الملك کی تلاوت کرے انشاء اللہ اولاد ہوگی۔

☆ عذاب قبر سے نجات کیلئے روزانہ ایک بار بعد نماز عشاء تلاوت کریں۔

سورة القلم (۶۸)

☆ ۷۰ بار سورۃ القلم پڑھنے سے چغل خور اور برا کہنے والوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔

سورة الحاقة (۶۹)، سورة المعارج (۷۰)، سورة النوح (۷۱)

☆ دشمن کے شر سے بچنے کیلئے ہفتے کی صبح بعد نماز فجر ۳۱ بار سورۃ الحاقہ پڑھیں۔

☆ بری موت سے بچنے کیلئے عصر کی نماز کے بعد سورۃ النوح پڑھیں۔

سورة الجن (۷۲)

☆ قیدی اگر سورۃ الجن کو روزانہ پڑھے تو اسے رہائی نصیب ہوگی۔ اور آسیب زدہ کو دم کر کے پلانے سے آفاقہ ہوگا۔

سورة المزمل (۷۳)

☆ جس گھر میں فاقہ رہتا ہو روزانہ بعد نماز عشاء ایک بار سورۃ مزمل پڑھیں انشاء اللہ گھر میں برکت ہوگی۔

☆ جس کے بچے مر جاتے ہوں تو سات بار ہادوضو سورۃ مزمل پڑھ کر چھالیہ پر دم کر کے اس میں سوراخ کر کے بچے کے گلے میں ڈالیں انشاء اللہ بچے کی عمر دراز ہوگی۔

سورة المدهثر (۷۴)

☆ محتاجی دور کرنے کیلئے اس سورۃ کو روزانہ بار پڑھیں۔

سورة قیامہ (۷۵)

☆ تسخیر خلائق کیلئے اس سورة کو روزانہ ۷ بار پڑھیں۔

سورة الدھر (۷۶)

☆ سات بار روزانہ اس سورة کی تلاوت کرنے سے دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے۔

سورة المرسلات (۷۷)

☆ اگر کسی کا سانس پھولتا ہو اور یا برے خواب دیکھتا ہو تو اس سورة مبارکہ کو دم کر کے پینے سے افادہ ہوگا۔

سورة النبا (۷۸)

☆ سورة نبا کا بعد از نماز عصر پڑھنا دل میں ایمان اور نور پیدا کرتا ہے۔

سورة النازعات (۷۹) سورة عبس (۸۰) سورة التکویر (۸۱)

☆ جو شخص روزانہ ۳۱ بار سورة النازعات پڑے گا وہ موت کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اور خاتمہ بالا ایمان ہوگا۔

☆ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کرنے کیلئے سورة تکویر کو ۳۱ بار تلاوت کریں۔

سورة انفطار (۸۲)

☆ سحر اور جادو کسی مکان میں دفن ہو اور اس کا پتہ نہ چلتا ہو تو اس سورة کو ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پورے مکان کی دیواروں پر چھڑکیں انشاء اللہ خواب میں جگہ معلوم ہو جائے گی۔

سورة المطففین (۸۳)

☆ ۷۰ بار یہ سورة پڑھنے سے بچے کی بآسانی ولادت ہوگی۔

سورة انشقاق (۸۴)

☆ اگر کسی کو بچھونے ڈنگ مار دیا ہو اور زہر کے سبب تکلیف ہو تو یہ سورة دم کریں۔

سورة البروج (۸۵)

☆ دشمنوں کے شر سے بچنے کیلئے ۵ بار روزانہ پڑھیں۔

سورة الطارق (۸۶)

☆ جس گھر میں سانپ بچھو یا شیطین ہوں تو یہ سورة لکھ کر لگانے سے وہ گھر محفوظ ہو جائے گا

سورة الاعلىٰ (۸۷)

☆ بواسیر کیلئے روزانہ ایک بار پڑھ کر پینے سے مرض ختم ہو جاتا ہے۔

سورة الغاشية (۸۸)

☆ جس کی ہانگی بند نہ ہوتی ہو تو یہ سورة ہاوضہ لکھ کر گلے میں ڈالیں۔

سورة الفجر (۸۹)

☆ جو شخص چاہے کہ اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو تو اس سورة کو ۱۰۰ بار پڑھ کر دعا کرے۔

سورة البلد (۹۰)

☆ جو شخص درد گردہ کا مریض ہو اس سورة کو روزانہ ۱۱ بار پڑھ کر دم کر کے پئے۔

سورة الشمس (۹۱) سورة الليل (۹۲)

☆ کوئی شخص بھاگ گیا ہو تو اس کی سلامتی کیلئے سورة الليل کو ہرن کی کھال پر لکھ کر درخت پر لٹکائیں انشاء اللہ جلد واپس آ جائے گا۔

سورة الضحیٰ (۹۳)

☆ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کیلئے اس سورة کی تلاوت کریں۔

سورة النشراح (۹۴)

☆ جو شخص ۷ روز تک ہر نماز کے بعد ۷ بار اس سورة کی تلاوت کرے گا اللہ اس کی بے چینی دور فرمادیں گے۔

سورة واتین (۹۵)

☆ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے گھر خوبصورت لڑکا پیدا ہو تو حمل کی ابتدا سے ۹ ماہ تک چینی کی طشتری پر سورة واتین لکھ کر بیوی کو چٹائے۔

سورة العلق (۹۶)

☆ اس سورة کا فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ۷ بار پڑھنا پھر سجدہ کرنا اور سجدے میں جیسی اللہ و نعم المولیٰ و نعم النصیر ۷ بار پڑھنا جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے۔

سورة القدر (۹۷)

☆ اگر کسی کو خارش ہوگئی ہو تو اس سورة کا دم کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔

سورة البینہ (۹۸)

☆ یرقان کے مریض کیلئے دم کر کے پیس اور گلے میں ڈالیں

سورة الزلزال (۹۹)

☆ سونے سے قبل تین بار پڑھنے سے وقت پر آنکھ کھل جاتی ہے۔

سورة العادیات (۱۰۰) سورة القارعة (۱۰۱) سورة التكاثر (۱۰۲)

☆ ہر مشکل عمل کیلئے سورة القارعة کو ۱۰۸ بار پڑھنا مجرب ہے۔

☆ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کیلئے سورة التكاثر کو ۳ بار روزانہ پڑھیں

سورة العصر (۱۰۳) سورة الہمزہ (۱۰۴) سورة الفیل (۱۰۵)

☆ ہر عمل میں کامیابی کیلئے سورة العصر کو بعد نماز عصر ۱۰۱ بار پڑھ کر دعا کریں۔

☆ اگر کسی ظالم و جابر کے سامنے جانا ہو تو سورة الہمزہ کو ۲۱ بار پڑھ لیا کریں۔

سورة قریش (۱۰۶)

☆ اگر کسی کے پیشاب میں خون آتا ہو تو جب بھی کھانا کھائے تو اس سورة کو پڑھ کر دم کر لیا کرے۔

سورة الماعون (۱۰۷)

☆ دشمنوں کے ناحق مقدمات سے بچنے کیلئے ۳۰ دن تک روزانہ گیارہ سو بار اس کی تلاوت کریں۔

سورة الکوش (۱۰۸)

☆ درود سر کیلئے ۷ بار پڑھ کر دم کرنا مجرب ہے۔

سورة الكافرون (۱۰۹)

☆ مغرب اور فجر کی سنتوں میں اس سورۃ کی تلاوت خاتمہ بالا ایمان کا ذریعہ ہے۔

سورة النصر (۱۱۰) سورة اللہب (۱۱۱)

☆ سورۃ اللہب کو ۳۰۰۰ بار روزانہ پڑھنے سے دشمن برباد ہوگا۔

سورة اخلاص (۱۱۲)

☆ جو عورت ہاتھ ہو دس دن روزانہ ۱۰۰۰ بار اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت کرے۔

معوذتین (۱۱۳، ۱۱۴)

☆ ہر قسم کے سحر و جادو کو ختم کرنے کیلئے ان سورتوں کو ۱۰۰ بار پڑھ کر دم کریں۔

عمل برائے تسخیر عام و خاص

حکماء، ذاکر و کلاء، دکاندار و تاجر حضرات کیلئے اصولِ تسخیر

اول سورۃ رحمن خوب اچھی طرح یاد کر لیں اور روزانہ صبح جب سورج نکلے اور ایک نیزہ بلند ہو جائے تو سورج کی طرف منہ کر کے سورۃ رحمن پڑھنا شروع کریں۔ جب آیت قہاٹی الاء رَبَّنَا نَعْلَمُ ان پر آئیں تو دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے سورج کی طرف ایک اشارہ کر دیں۔

اسی طرح ہر مرتبہ قہاٹی الاء رَبَّنَا نَعْلَمُ پر انگلی سے اشارہ کر دیا کریں یہاں تک کہ سورۃ ختم ہو جائے۔ یہ عمل چالیس دن تک کریں بعد ختم چلہ روزانہ ایک مرتبہ سورۃ رحمن پڑھتے رہیں۔ یہ عمل روزانہ پانچ منٹ کا ہے ایک ہفتہ بعد آمد مخلوق شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ زکوٰۃ ہے آپ التفات نہ کریں اور آنے والوں کو کمال اخلاق سے بٹھایا کریں اور خوش مزاجی سے پیش آئیں۔

ایک چلہ میں عام مخلوق کی آمد، دوسرے چلہ میں خاص لوگوں کی آمد، تیسرے چلہ میں رئیسوں کی آمد، چوتھے چلہ میں رات دن مخلوق کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ اگر تجارتی کاروبار ہے سب خریداری کریں گے۔ اور ہر شخص دکان کی طرف خود بخود کھینچ کر آئے گا۔ عجیب و غریب صفات کا عمل ہے اگر کسی حاکم یا افسر کے پاس جانا ہے تو ایک بار سورہ رحمن پڑھ کر جائیں اگر زیادہ وقت نہ ہو تو تین بار قہاٹی الاء رَبَّنَا نَعْلَمُ پڑھ لیا کریں پھر سلام کریں افسر کمال خوش اخلاقی سے پیش آئے گا۔ انشاء اللہ

درود شریف
سے
مشکلات
کا حل

درود شریف کی فضیلت و برکات

درود شریف کی فضیلت و برکات اس قدر ہیں کہ تمام مشکلات اور مصائب کا حل اس کے ورد میں مضمر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی عمل کی تلقین کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں لہذا تم بھی کیا کرو مگر درود شریف کے بارے میں قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب آیت 56 میں خاص طور پر یہ فرماتے ہیں کہ:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا

(اللہ پاک اور اس کے فرشتے آپ ﷺ پر درود و سلام بھیجتے ہیں پس اے ایمان والو! تم بھی ان (نبی کریم ﷺ) پر درود و سلام بھیجو) سبحان اللہ کتنا عظیم ذکر ہے جس کے ذکر خود اللہ پاک ہیں اس بات پر غور کریں تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ درود شریف اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے تو جس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے گا وہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی۔ حضرت عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس کا کچھ حصہ اوپر نہیں چڑھتا جب تک کہ تو اپنے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پاک نہ بھیجے۔

درود شریف کے فضائل و مناقب اور احکام اتنے زیادہ ہیں کہ اس پر مفصل اور مختصر سیکڑوں کتابیں (بلا مبالغہ) لکھی جا چکی ہیں۔ انہی مستند و معتبر کتب سے منتخب کی گئی چند احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں کہ جن میں درود شریف کی فضیلت و برکات کا بیان ہے۔

حضرت ابو طلحہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم ﷺ خوش و خرم تشریف لارہے تھے، ارشاد فرمایا: میرے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا کوئی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اس پر دس بار درود پاک پڑھوں، آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام پڑھے اور میں اس پر دس بار سلام پڑھوں۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی خلوص دل کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار درود بھیجے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھے گا اس کے دس درجات بلند ہوں گے اور دس برائیاں مٹا دی جائیں گی۔

ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر روز سو مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی سو حاجات پوری کی جائیں گی، جن میں سے تیس دنیا میں اور باقی آخرت میں پوری کی جائیں گی۔

نبی ﷺ نے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر پر درود پاک پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں اور جو مجھ سے فاصلے پر پڑھتا ہے وہ میرے پاس (فرشتوں کے ذریعے) پہنچا دیا جاتا ہے۔

اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ سے درود شریف کی برکات ثابت ہیں مگر یہاں ہم درج بالا پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو درود شریف کی کثرت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین

حضور ﷺ کی شفاعت واجب ہو جائے

۱۔ حضرت روفیغ بن ثابت انصاریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس طرح کہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ
الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

تو اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔

۲۔ یہ درود شریف حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مرفوعاً مروی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص میرے لئے وسیلہ کی دعا کرے گا اس پر میری شفاعت اترے گی یعنی محقق ہو جائے گی۔ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ واجب ہو جائے گی۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَاَبْلِغْهُ
الْوَسِيْلَةَ وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ مِنَ الْجَنَّةِ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي الْمُصْطَفَيْنَ مَحَبَّتَهُ
وَفِي الْمُقَرَّبَيْنَ مَوَدَّتَهُ وَفِي الْاَعْلَيْنَ
ذِكْرَهُ السَّلَامَ عَلَيْهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

(فضائل درود)

مال میں برکت ہوگی

حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو منظور ہو کہ
میرا مال بڑھ جائے وہ یوں کہا کرے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ
وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

امام شافعیؒ کا اعزاز

روضۃ الاحباب میں امام اسماعیل بن ابراہیم مدنی سے مروی ہے کہ انہوں نے امام شافعیؒ
کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ
بولے مجھے بخش دیا اور حکم دیا کہ مجھ کو تعظیم و احترام کے ساتھ بہشت میں پہنچا دیں اور سب برکت
ایک درود کی ہے جس کو پڑھا کرتا تھا میں نے پوچھا وہ کونسا درود؟ فرمایا یہ ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ
الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ

(حاشیہ حسن حسین)

ہر مصیبت سے نجات کیلئے

مناجی الحسنات میں ابن فاکہانی کی کتاب فجر منیر سے نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ شیخ صالح موسیٰ ضریر تھے انہوں نے اپنا گزرا ہوا قصہ مجھ سے بیان کیا کہ ایک جہاز ڈوبنے لگا میں اس میں موجود تھا اس وقت مجھ کو غنودگی سی ہوئی اس حالت میں رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو یہ درود تعلیم فرما کر ارشاد فرمایا کہ جہاز والے اس کو ہزار بار پڑھیں ہنوز تین سو بار تک نوبت پہنچی تھی کہ جہاز نے نجات پائی۔ وہ درود شریف یہ ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوةً
تُنَجِّنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْآفَاتِ
وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا
بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا
عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى
الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَوةِ وَبَعْدَ
الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

فائدہ: حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے زاد السعید کے حاشیہ پر اس درود شریف کا کثرت سے پڑھنا اور مکان میں لکھ کر چپا کر تمام امراض و ہائے ہیضہ و طاعون وغیرہ سے حفاظت کیلئے مفید اور مجرب لکھا ہے۔ اور یہ کہ قلب کو عجیب اطمینان بخشتا ہے۔

اس درود شریف کے پڑھنے والے کا حضور ﷺ نے خصوصی اکرام فرمایا

اس درود شریف کے پڑھنے والے کا حضور ﷺ نے خصوصی اکرام فرمایا اس کو قریب بٹھایا
اس پر صحابہؓ کو تعجب ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ صاحب یہ درود پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ وَعَلَى
أٰلِ (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

(القول البدیع، مختصر حزب الاعظم)

شوہر کے ظلم اور تنگ دستی سے حفاظت کیلئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْفَرْقِ
وَالْفَرْقَانِ ۝ وَجَامِعِ الْوَرَقِ وَمُنْزِلِهِ مِنْ سَمَاءِ الْقُرْآنِ ۝
وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ ۝

فائدہ: اگر شوہر مار پیٹ اور ظلم و ستم کرتا ہو یا کوئی تنگ دستی اور محتاجی کا شکار ہو تو یہ درود
شریف بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب یا عشاء 71 بار پڑھ کر دعا کرے تو انشاء اللہ تعالیٰ شوہر بیوی
پر مہربان ہو جائے گا اور محتاجی و تنگ دستی سے بھی محفوظ رہے گا۔

مقبولیت عامہ اور تسخیر قلوب کیلئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً مَقْرُونَةً بِذِكْرِهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً جَامِعَةً بَيْنَ
 فَرْحِهِ وَسُؤْرِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً
 مُحِيطَةً بِطَوْرِهِ وَصُورِهِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 صَلَاةً مُنَوَّرَةً لِقُلُوبِ أَصْحَابِ صُدُورِهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً شَارِحَةً لِمَقْشُورِهِ
 فِي مَسْطُورِهِ ۝ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْأَوَّلِيَاءِ بَعْدَ عُبُورِهِ وَمُرُورِهِ بَيْنَ الْمَاءِ وَطَهُورِهِ
 وَتَوْرِهِ وَظُهُورِهِ ۝ وَالْحَقُّ وَأُمُورِهِ

اس درود میں عجیب قوت تسخیر ہے۔ اگر کوئی ہر نماز کے بعد تین بار اس درود شریف کے پڑھنے کا معمول رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں میں عجیب مقبولیت اور اہل اقتدار کی نگاہ میں محبوبیت عطا کر دیتے ہیں۔ نیز اگر کوئی گیارہ بار و مرتبہ اس درود کو عطر گلاب پر دم کر کے چہرے پر مل کر حاکم وقت یا مطلوبہ شخص سے ملاقات کرے تو وہ بلا حیل و حجت اس کا کام کر دے گا اور انٹرویو میں کامیابی کیلئے نہایت مؤثر ہے۔

دل کی گھبراہٹ اور بلڈ پریشر کیلئے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمْنِيِّ الظَّاهِرِ
 الزَّكِيِّ صَلَاةً تَحِلُّ بِهِ الْعُقَدُ تَفْكَ بِهَا الْكُورُ۔

فائدہ: جس کا دل خواہ مخواہ گھبرانے لگے اور انجانا خوف طاری ہو یا بلڈ پریشر کا مریض ہو تو

یہ درود شریف روزانہ بعد نماز مغرب 313 بار پڑھ کر سینہ میں پھونک لے اور آدھا کپ پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاء اللہ بہت جلد افاقہ ہوگا اور طمانیت قلب نصیب ہوگی۔ امراض قلب میں نہایت اکسیر ہے۔

باغات اور فصلوں کو بیماریوں سے بچانے کیلئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ بَعْدَ اَوْرَاقِ الشَّجَارِ
وَبَعْدَ اَقْطَارِ الْمَطَارِ ۝ وَبَعْدَ دَوَابِ الْبَوَارِی
وَالْبَحَارِ ۝ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۔

۳۱ بار روزانہ پڑھ کر دم کریں۔

ادائیگی قرض کیلئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ اَبَدًا اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلٰی سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَالِیْهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا
وَزِدْهُ تَشْرِیْفًا ۝ وَانْزِلْهُ الْمَنْزِلَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ
یَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

فائدہ: اگر کوئی قرض دار فرصت کے اوقات میں یکسوئی کے ساتھ روزانہ ایک سو ایک مرتبہ یہ درود شریف پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیتے ہیں نہایت مجرب ہے۔

مستقل مزاجی پائیں اور تسبیح اوقات سے بچیں

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كُلَّمَا
ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ ۝ وَكُلَّمَا سَمِعُوْهُ الْغَافِلُونَ
وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

فائدہ: جو شخص بھی بعد نماز فجر بطور وظیفہ ایک سو بار یہ درود شریف پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دینی و دنیاوی کاموں میں یکسوئی اور مستقل مزاجی عطا کر دیتے ہیں نیز اس کی برکت سے اوقات ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں اور کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔

آنکھ کی جملہ تکالیف اور بینائی تیز کرنے کیلئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ
نُورُهُ ۝ وَالرَّحْمَةِ لِلْعَالَمِيْنَ ظُهُورُهُ ۝ عَدَدَ مَنْ مَضٰى مِنْ
خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِيَ ۝ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقِيَ ۝
صَلَاةٌ تَسْتَعْرِقُ الْعَدَدَ وَتَحِيطُ بِالْخَلْقِ ۝ صَلَاةٌ لَا غَايَةَ
لَهَا وَلَا اِسْتِهَاءَ ۝ وَلَا اَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ ۝ صَلَوَاتِكَ
الَّتِي صَلَّيْتَ عَلَيْهِ ۝ صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بِدَوَامِكَ ۝ وَعَلٰی
اٰلِهِ وَصَحْبِهِ كَذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذَلِكَ

فائدہ: اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد یہ درود شریف پڑھ کر انگلیوں پر دم کرے اور آنکھوں پر پھیر لیا کرے تو اللہ تعالیٰ آنکھ کی ایسی تکالیف بھی دور کر دیتے ہیں جس سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں اور بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ آزمودہ ہے۔

ہر قسم کے درد اور لاعلاج بیماری کیلئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍۭ بِعَدَدِ كُلِّ دَاۤءٍ وَّ دَوَاءٍ ۝ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

فائدہ: کسی بھی قسم کے درد اور مرض کیلئے مریض پر یہ درود شریف اس طرح دم کرے کہ اول آخر تین بار یہ درود پڑھے اور درمیان میں سات بار سورہ فاتحہ مع بسم اللہ اور تین بار سورہ اخلاص پڑھے کہ اس کا ثواب حضرت علامہ مخدوم محمد ہاشم سندھی کو بخش دے اور مریض پر دم کرے تو انشاء اللہ العزیز فوراً شفا ہو جائے۔ نیز اگر مریض لاعلاج قرار دے دیا گیا ہو یا بیماری سخت ہو تو یہ درود شریف اول و آخر ایک سو بار پڑھے۔ شوگر اور کینسر جیسے موذی امراض میں نہایت اکسیر پایا ہے۔

قرض سے محفوظ رہنے کیلئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍۭ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

فائدہ: جو شخص چاہے کہ کبھی قرض دار نہ ہو یا اگر ہو جائے تو جلد نجات پائے۔ اس کو چاہیے کہ بعد نماز ظہر سومرتبہ یہ درود شریف پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے بچائیں گے اور اگر مقروض ہو تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیں گے۔ اور آخرت میں کسی نعمت کی ناقدری پر پکڑ نہیں ہوگی۔ انشاء اللہ العزیز

موذی جانوروں سے حفاظت کیلئے

صَلِّی اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ عَلٰی مُحَمَّدٍ
عَبْدِهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِیِّ الْاَمْنِیِّ وَآلِہٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
کَمَا هُوَ اَهْلُهُ

فائدہ: اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یہ درود شریف پڑھ کر بدن پر دم کرے تو جن آسیب اور سانپ بچھو کوئی بھی موذی جانور اس کو تکلیف نہ دے سکے گا۔ اور نہ کوئی ظالم و سرکش اس پر غلبہ پاسکے گا نیز کثرت سے اس کا ورد کرنا عجیب حفاظتی حصار کی طاقت رکھتا ہے۔

اولاد کی کامیابی اور عزت کیلئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ ۝ صَلَاةٌ اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ ۝ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَذَلِكَ

فائدہ: اگر کوئی شخص بعد نماز فجر اور مغرب 71 مرتبہ اور دیگر نمازوں کے بعد سات مرتبہ یہ درود شریف پابندی سے پڑھا کرے تو انشاء اللہ العزیز اس کو اور اس کی اولاد کو معاشرے میں باعزت مقام حاصل رہے گا۔

اُسی سال کے گناہ معاف اور اُسی سال کی

عبادت کا ثواب

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
الْاُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے اور جو شخص جمعہ کے دن اسی بار مجھ پر درود شریف پڑھے اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا یا رسول اللہ ﷺ آپ پر کس طرح درود شریف پڑھیں؟ فرمایا:-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ
وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ ۝ (القول الہدیٰ للسناوین)

سب سے افضل حمد اور درود شریف

علامہ ابن المثنیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ جل شانہ کی ایسی حمد کرے جو سب

سے زیادہ افضل ہو جو اس کی مخلوق میں کسی نے (اب تک) نہ کی ہو، اولین و آخرین اور ملائکہ مقربین، آسمان والوں اور زمین والوں میں سے بھی افضل ہو اور اسی طرح یہ چاہے کہ حضور اقدس ﷺ پر ایسا درود پڑھے جو ان سے سب افضل ہو جتنے درود کسی نے پڑھے ہوں اور اسی طرح یہ بھی چاہتا ہو کہ وہ اللہ جل شانہ سے کوئی ایسی دعا مانگے جو ان سب سے افضل ہو جو کسی نے (اب تک) مانگی ہوں تو وہ یہ پڑھا کرے:-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا اَنْتَ اَهْلُهُ
فَصَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی (سَيِّدِنَا) مُحَمَّدٍ كَمَا
اَنْتَ اَهْلُهُ وَاَفْعَلُ بِنَا مَا اَنْتَ اَهْلُهُ
فَاِنَّكَ اَهْلُ التَّقْوٰی وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
ایک عظیم نیکی کے لکھنے میں فرشتوں کا اللہ سے
رجوع کرنا

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے (اللہ تعالیٰ کی اس طرح) تعریف کی:

يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَسْتَبْغِي لِبَجَلَالِ
وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ

تو فرشتے مشکل میں پڑ گئے اور سمجھ نہ سکے کہ وہ اسے کس طرح لکھیں۔ تو وہ آسمانی طرف چڑھے اور عرض کیا اے ہمارے پروردگار تیرے بندہ نے ایک ایسا جملہ کہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس (کے ثواب) کو کس طرح لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کلمہ کو اسی طرح سے لکھو جس طرح سے میرے بندہ نے کہا ہے یہاں تک کہ میرا بندہ جب مجھ سے ملے گا تو اسے اس کا انعام دوں گا۔ (ابن ماجہ، طبرانی، مجمع الزوائد، تفسیر قرطبی، کنز العمال)

اس کا ثواب ستر فرشتوں کو ایک ہزار دن تک مشقت میں ڈالے گا۔

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا هُوَ أَهْلُهُ

فائدہ: مشقت میں ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ ہزار دن تک اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ (الترغیب ص ۱۶۳، ج ۳ بروایت طبرانی فی الکبیر الاوسط)

صلوة الحاجت

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری کرتے ہیں۔
دو رکعت نماز حاجت پڑھیں اور پہلی رکعت میں سورۃ کافرون دس بار اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص دس بار پڑھیں سلام پھیرنے کے بعد دس بار تیسرا کلمہ اور دس بار درود شریف اور دس بار دوسرا
استغفر اللہ اور پھر ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھیں اور 100 بار یا رب یا رب کہیں اور پھر حاجت
کا تذکرہ کریں اور پھر درود شریف پڑھ کر امین کہہ دیں۔

مقاتل سے ایک مجرب دعا منقول ہے جس سے عیسائی مردوں کو زندہ کرتے تھے جب تو اس دعا کو پڑھنا چاہے تو صبح کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 بار ۱۰۰۰ اللہم ارحمنا فی الترحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم انی اسئلتک یا قدیم یا دائم یا قوۃ یا احد یا وثر یا صمد یا قیوم یا ذا الجلال و الاکرام فان تولا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و هو رب العرش العظیم پھر جو دعائیں قبول ہوگی اگر قبول نہ ہو تو مقاتل کو یامست کرنا (خمس المعارف صفحہ 269)

حس شخص کو کوئی مصیبت درپیش ہو اس کو چاہیے کہ شب جمعہ کو غروب آفتاب کے بعد غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھے اور کسی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ کر وتر کے آخری سجدہ میں یہ الفاظ یا اللہ یا رب یا حی یا قیوم بک استغیث یا اللہ سو بار کہے اور حاجات مانگے ضرور پوری ہوگی۔ (حس المعارف ص 269)

متفرق وطائف

جادو کا علاج

جادو کے ربانی علاج کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم: جس سے انسان جادو سے محفوظ رہے وہ یہ ہیں۔

- ۱۔ تمام فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور تمام محرمات کو ترک کر دینا اور تمام گناہوں سے توبہ کرنا۔
- ۲۔ تلاوت قرآن کریم کی کثرت بایں طور کہ اس کو اپنے معمولات یومیہ میں شامل کر لینا۔
- ۳۔ دعاؤں تعویذات اور اذکار مشروعہ سے اپنی حفاظت کرنا۔ مثلاً مندرجہ ذیل دعاؤں کو درج شدہ ترتیب پر پڑھنا

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّمَعَ اسْمُهُ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کو پڑھنا اور ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت اور صبح و شام آیت الکرسی پڑھنا اور سورۃ الاخلاص اور معوذتین کا صبح و شام اور سوتے وقت تین تین مرتبہ پڑھنا اور لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر کا سو مرتبہ پڑھنا اور صبح و شام اور نماز کے بعد کے اذکار اور سونے جاگتے گھر میں داخل ہونے، نکلنے، سوار ہونے، مسجد میں داخل ہونے، مسجد سے نکلنے، بیت الخلاء میں جانے اور اس سے نکلنے، مصیبت زدہ کو دیکھتے وقت کی دعاؤں کا پابندی سے پڑھنا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان مندرجہ بالا دعاؤں کی پابندی ان اسباب میں سے ہے جو انسان کو (اللہ کے حکم سے) جادو اور نظر بد لگنے اور جنات کے اثر سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان مذکورہ آفتوں وغیرہ کے آنے کے بعد بھی یہ دعائیں اہم علاج ہیں۔

اگر ممکن ہو تو صبح نہار منہ ساتھ کھجوریں کھانا بھی جادو کیلئے مفید ہے۔ اس لئے کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

مَنْ أَصْبَحَ بِسَبْعِ تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْیَوْمَ سَمٌ وَلَا سِحْرٌ (بخاری)

بجودہ مدینہ منورہ کی ایک خاص کھجور ہے جو سب سے افضل اور بہتر کھجوروں میں سے ہے۔ بہتر یہ ہے کہ یہ کھجوریں مدینہ کے دھروں کے درمیان پیدا ہونے والی ہوں جیسا کہ مسلم کی روایت میں اس کی تصریح ہے۔ لیکن شیخ عبد اللہ بن باز حفظہ اللہ (مفتی اعظم مملکت سعودیہ) کا

خیال یہ ہے کہ مدینہ کی وہ تمام کھجوریں جن میں یہ خاصیت پائی جاتی ہو ان کا کھانا کافی ہے اس لئے کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے:

”جو شخص صبح کو مدینہ کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی سات کھجوریں کھائے.....“

جیسا کہ شیخ کا خیال ہے کہ اگر کسی نے مدینہ کی کھجوروں کے علاوہ کہیں اور کی ساتھ کھجوریں اس مذکورہ طریقے سے کھالیں تو امید ہے کہ اس کیلئے بھی اسی طرح نافع ہوں گی۔

دوسری قسم جادو چلنے کے بعد جادو کا علاج

۱۔ اس جادو کا نکلنا اور کاٹ کرنا ہے جبکہ اس کی جگہ اور مقام اس طریقہ سے معلوم ہو سکے جو شرعاً جائز ہو اور یہ مسکور کا سب سے بہترین علاج ہے۔

۲۔ (جائز) جھاڑ پھونک ہے۔ پھر اس کے بھی بہت سے طریقے ہیں مثلاً

۱۔ ہیری کے سات ہرے پتے لے کر گھوٹے پھر اس میں اتنا پانی ملا دے جو غسل کیلئے کافی ہو سکے اور اس پر تعوذ، آیت الکرسی سورہ اعراف کی آیت ۱۱۷ تا آیت ۱۲۳ سورہ یونس کی آیت ۹۷ تا آیت ۸۲، سورہ طہ کی آیت ۶۵ تا آیت ۷۰، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کرے اور پھر اس پانی سے تھوڑا سا لیکر تین مرتبہ پیوے اور باقی پانی سے غسل کرے انشاء اللہ اس سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا لیکن اگر دوبارہ سر بارہ ضرورت ہو تو اسی طرح کرتا رہے حتیٰ کہ مرض بالکل ختم ہو جائے۔ یہ طریقہ بہت سے لوگوں نے آزمایا ہے اور اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کو نفع پہنچایا ہے۔ خاص طور پر ایسے آدمی کیلئے زیادہ مجرب ہے جسے سحر کے ذریعے سے اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔ (فتح الباری)

سورہ فاتحہ، آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، سورہ اخلاص اور معوذتین کا متاثرہ مقام پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے تین مرتبہ پڑھ کر دم کرنا بھی انتہائی مفید ہے۔ (بخاری و مسلم)

وہ کلمات جنکے روزانہ پڑھنے سے جادو اثر نہیں کرتا

حضرت کعب احبارؓ فرماتے ہیں ”لو لا کلمات اقولہن لجعلتہن الیہود حماراً“ اگر یہ چند کلمات نہ ہوتے جن کو میں پابندی سے پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔

وہ کلمات یہ ہیں:

أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ شَيْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ
اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأَسْمَاءِ اللَّهِ
الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ
بِرَّاءٍ وَذَرَاءٍ

(ص 276 معارف القرآن، موطاء امام مالک)

جادو کے توڑ کیلئے جامع دعائیں

- ۱۔ سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر مریض پر دم کریں انشاء اللہ شفا یاب ہوگا۔
اَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ (ترمذی)
- ۲۔ مریض خود اپنے جسم کے متاثرہ مقام پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر
سات مرتبہ یہ دعا پڑھے اور دم کرے انشاء اللہ بہت جلد شفا پائے گا۔
أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحْدَثَ وَأَحْذَرُ (مسلم)
- ۳۔ یہ دعا پڑھ کر دم کرنا بھی انتہائی مفید و مجرب ہے۔
اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ اَذْهَبِ الْبَاسَ وَاَشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ
اِلَّا شِفَاؤُكَ لَا يَغَادِرُ سَقَمًا (بخاری)
- ۴۔ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ
لَّامِيَةٍ (بخاری)
- ۵۔ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (مسلم)
- ۶۔ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ
هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَخْضَرُونِ (ابوداؤد)
- ۷۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ یہ آعوذ اپنے بھجھدار بچوں کو تو لفظ بلفظ یاد کراتے تھے اور
نا بچھ بچوں کے گلے میں تعویذ لکھ کر ڈال دیتے۔
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ
شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرًّا وَذَرًّا وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ
شَرِّ مَا يَنْعُرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا

يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ لَيْلٍ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا
طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ بِأَرْحَمَنُ (مسند احمد)

مذکورہ بالا تینوں اویہ ہر طرح کے شر سے حفاظت کیلئے انتہائی مجرب ہیں جو ان کو روزانہ صبح و شام پڑھے اور بچوں کیلئے لکھ کر گلے میں ڈال دے انشاء اللہ خود بھی اور بچے بھی ہر طرح کی آفت سے محفوظ رہیں گے۔

جادو وغیرہ کا اثر ختم کرنے کیلئے

اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہے یا علامتیں محسوس ہو رہی ہوں تو جادو کے اثر کو ختم کرنے کیلئے ۱۱ دن تک ۱۰۰ بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں یا اور کسی پر شک ہو تو اس پر پڑھ کر پھونکیں۔ اس دعا کے دوران کوئی دوسرا عمل نہ پڑھیں۔

وَالْقَى مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سِحْرٌ
وَلَا يُفْلِحُ السِّحْرُ حَيْثُ أَنَّى ۝ فَالْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا قَالُوا
أَمَّا رَبِّ هَرُونَ وَمُوسَى (سورہ طہ ۶۸، ۶۹)

دل کی گھبراہٹ کیلئے

ترکیب: جس شخص کو اختلاج قلب یا دل کی دھڑکن کی شکایت ہو تو اس تعویذ کو لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالے کہ تعویذ دل تک آ جائے یعنی دل پر پڑا رہے۔ دراصل سینہ کے گڑھے یعنی کوزی پر پڑا رہے۔ وہ آیت یہ ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ الْيَدَيْنِ
أَمْنًا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

۸۰	۱۰	۶۰
۳۰	۵۰	۷۰
۴۰	۹۰	۲۰

عَلَى يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

حول دل دفع شد

دل گھبراہٹ کیلئے (ہولدی)

یہ آیت بسم اللہ سمیت لکھ کر گلے میں باندھیں ذور اتنا لمبا رہے کہ تعویذ دل پر پڑا رہے اور دل ہائیں طرف ہوتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ
اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

دل کے دورے کا علاج

اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر سینے پر دم کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ دل کی ہر بیماری سے شفاء ہوگی۔

يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ دِلِ
مَا رَأَيْتُ مُسْتَقِيمٌ بِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
دل کی تکلیف کیلئے

ہر نماز کے بعد اور جب بھی دل کی تکلیف ہو تو دل پر سیدھا ہاتھ رکھ کر یہ دعا بار بار پڑھیں۔

يَا اللَّهُ قَوِّنِي وَقَلْبِي

دل کی بیماری دور کرنے کا نبوی نسخہ

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ روایت کرتے ہیں کہ میں بیمار ہوا میری عیادت کو رسول اللہ ﷺ تشریف لائے انہوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو ان کے ہاتھ کی

ٹھنڈک میری ساری چھاتی میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے دل کا دورہ پڑا ہے اسے حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ جو ثقیف میں مطب کرتا ہے حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی سات بجوہ کجوریں کھلیوں سمیت کوٹ کر اسے کھلا دے۔ (مسند احمد، ابو نعیم، ابو داؤد)

فائدہ: کجور کے فوائد کے بارے میں یہ حدیث بڑی اہمیت کی حامل ہے کیوں کہ طب کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مریض کے دل کے دورہ کی تشخیص کی گئی۔

دل کی ہر بیماری کیلئے مجرب نسخہ

دل پر ہاتھ رکھ کر ۱۱۱ مرتبہ

سُبْحَنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

ہول کے مریض اضطراب قلب خفقان کیلئے مینہ کے پانی سے اس آیت کا سات مرتبہ سات روز تک لکھ کر پلانا یا مینہ کے پانی سے زعفران گھول کر سات مرتبہ آیت کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالنا بفضلہ تعالیٰ بہت مفید ہے۔ آیت یہ ہے:

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِّيَطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى
قُلُوبِكُمْ وَيُنَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

اگر بدن میں کسی جگہ درد ہو

یا کوئی اور تکلیف ہو تو تکلیف کی جگہ داہنا ہاتھ رکھ کر پہلے تین بار بسم اللہ کہے اور پھر سات

بار یہ پڑھے

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ

وَأَحَازِرُهُ (مُسلّم)

بلڈ پریشر کیلئے

ہر طرح کے بلڈ پریشر کیلئے مندرجہ ذیل آیتیں ہر فرض نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھیں،

انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ
اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى
لَهُمْ وَحَسَنُ مَا يَأْتُونَ (سورة الرعد آیت ۲۸)

(ارشاد فرمودہ حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب)

جملہ قسم کے یرقان کیلئے

اگر کسی کو یرقان ہو گیا ہو تو پہلے سورۃ الفاتحہ ایک بار پھر سورۃ الحشر سات بار اور پھر سورۃ
القریش ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس وقت تک پلائیں جب تک فائدہ نہ ہو۔

جگر کی بیماری کیلئے

جگر کی تمام بیماریوں کیلئے ۲۱ بار یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانا نافع ہے۔ (عملیات کشمیری)

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

دفع درد جگر کیلئے

درد جگر، رفع خفقان اور دل کی دھڑکن کو دور کرنے کیلئے چاہیے کہ آیت الکرسی کو ایک
پاک برتن میں تین بار لکھیں اور پھر اس کو دھو کر مریض کو پلا دیں اور وہ پیتے وقت یہ کہے:

نَوَيْتُ الشِّفَاءَ مِنَ الْعِلَّةِ (دیربن)

معدہ کی کمزوری کا علاج

سورۃ القدر ۱۱ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں۔ دن میں تین مرتبہ یہ دم کیا
ہو پانی پینے سے انشاء اللہ سات یوم کے اندر اندر معدہ کی کمزوری کی شکایت رفع ہو جائے گی۔
(عملیات کشمیری)

درود سینہ کا علاج

یہ آیات لکھ کر سینہ پر باندھنا سینے کے درد کیلئے بے حد مفید ہے۔

ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ. وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَلِّ وَالنَّهَارِ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ذیابیطس کے مریض کیلئے روحانی علاج

سب سے پہلے درود شریف تین، پانچ یا سات بار پڑھیں۔ اس کے بعد یہ آیت ایک بار

پڑھیں: اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ اس کے بعد سورۃ العادیات ایک مرتبہ پڑھیں۔

نوٹ: دن میں کسی بھی وقت مقررہ پر روزانہ پڑھیں۔

شوگر کے مریضوں کیلئے ایک اور دعا

ڈھائی ماہ تک بلا ٹانہ ۳ مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام یہ دعا پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجئے

(اول و آخر تین مرتبہ درود پاک) یہی دعا بلند پریشر کیلئے بھی مفید ہے۔

رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ

مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ

لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۸۰)

تلی بڑھ جانے کا علاج

یہ آیت بسم اللہ سمیت لکھ کر تلی کی جگہ باندھیں

ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

(سورہ بقرہ آیت ۱۷۸)

ناف ٹل جانے کا علاج

یہ آیت بسم اللہ سمیت لکھ کر ناف کی جگہ باندھیں، ناف اپنی جگہ آ جائیگی اور اگر بندھا رہے دیں تو پھر نہ ٹلے گی۔

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ
تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ
مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

پیٹ کے درد کا علاج

یہ آیت پانی پر تین بار پڑھ کر پلاٹیں یا لکھ کر پیٹ پر باندھیں

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ

(سورہ صافات آیت ۴۷)

پیٹ کے ہر قسم کے درد کیلئے

۱۔ یہ آیت پانچ مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور ہاتھ سے پیٹ ملے اگر درد جاتا رہا تو خیر
ورنہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کرے انشاء اللہ جاتا رہے گا۔

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ

(سورہ نمل آیت ۳۸، آئینہ عملیات)

۲۔ سات مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائے خواہ کیسا ہی درد ہو انشاء اللہ فوراً دور ہو جائے گا اور سات بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں۔ (مغربات، عملیات و تعویذات)

بدہضمی کا علاج

اگر کوئی شخص زیادہ کھالے اور بدہضمی کا اندیشہ ہو تو کھانے کے بعد سات بار یہ آیت نمک پر دم کر کے کھلایا جائے بدہضمی کیلئے مفید ہے۔

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۹، عملیات کشمیری)

بھوک کی کمی کا علاج

۱۔ اگر بھوک بالکل نہ لگتی ہو تو یہ آیت اکیس مرتبہ پانی پر دم کر کے پلایا جائے انشاء اللہ بھوک خوب لگے گی۔ مجرب ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ
اللَّهُ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

(سورہ نور آیت ۱۰، عملیات کشمیری)

۲۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو اکتالیس بار یہ آیت کھانے پر دم کر کے کھلائیں

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

(سورہ الشعراء آیت ۷۹، عملیات کشمیری)

زبان کی لکنت کا علاج

اگر زبان میں لکنت ہو تو اس کو پڑھے اس سے سینہ بھی کشادہ ہو جائیگا۔

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي

أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝

يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ (طہ، آیت ۲۵ تا ۲۸)

منہ کے چھالوں کا علاج

سورہ الشُّعْبِ اکتالیس بار چینی پر دم کر کے چبانے سے انشاء اللہ تمام پھنسیاں اور چھالے ختم ہو جائیں گے۔ (عملیات کشمیری)

دفعِ بلغم

علامہ دیرتی نے لکھا ہے جو شخص عارضہ بلغم میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نمک کی سات چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے اور ان میں ہر ایک پر سات مرتبہ ”آیت الکرسی“ پڑھے اور سات روز نہار منہ استعمال کرے انشاء اللہ اس عارضے سے نجات پالے گا۔

فالج کا علاج

ابن قیمؒ نے ایک مفلوج سے نقل کیا ہے کہ میں نے زمزم کے پانی سے دوات درست کر کے اور اس سے ایک برتن میں بسم اللہ اور سورہ حشر کی آخری آیات صواللہ سے تا آخر لکھ کر زمزم سے دھو کر پی لیا اللہ تعالیٰ نے شفاء عطا فرمائی۔ (اعمال قرآنی)

ہچکی کا علاج

تین سانس میں پانی پئے اور ہر سانس پر سات مرتبہ یا حفیظ کہے انشاء اللہ ہچکی بند ہو جائے گی۔

گردے اور پتے کی پتھری کا علاج

گردے اور پتے کی پتھری دور کرنے کیلئے ۴۱ بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس وقت تک پلائیں جب تک کامیابی نہ ہو۔

وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ
وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ
وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ
وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ
وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ
وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ
وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ
وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ
وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ
وَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ

(سورہ بقرہ آیت ۷۷)

آپ مریض ہیں تو یہ عمل کریں

ابن جریر میں حضرت علیؓ کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی شفا چاہے تو قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی صحیفے پر لکھ لے اور اسے ہارش کے پانی سے دھو لے اور اپنی بیوی کے مال (مہر) سے اس کی رضامندی سے پیے لے کر شہد خریدے اور یہ دونوں پی لے پس اس میں کئی وجہ سے شفا آجائے گی۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ
رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

ایک دوسری آیت میں ہے:

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا

اور فرمان الہی ہے:

فَإِنْ طَبُنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ❀

شہد کے بارے میں فرمان الہی ہے:

❀ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ❀

ابن ماجہ میں ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح کو شہد چاٹ لے
اسے کوئی بڑی بلا نہیں پہنچے گی۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۲۹)

پیشاب بند ہو جانے اور پتھری کیلئے دعا

جب پیشاب بند ہو جائے یا پتھری ہو تو یہ دعا پڑھے:

رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ
اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا
رَحِمْتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ
فِي الْأَرْضِ وَاعْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَاَنَا
أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَأَنْزِلْ شِفَاءً مِنْ
شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ عَلَى

هَذَا الْوَجَعِ ۝

درد سر کا علاج

عامل اپنا ہاتھ درد مند کے سر پر رکھ کر یہ دعا پڑھے:

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ رَبِّ الْأَرْضِ
وَالسَّمَاءِ بِاسْمِ الَّذِي اسْمُهُ بَرَكَهٌ
وَشِفَاءٌ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي بِيَدِهِ الشِّفَاءُ
بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ

اس کو تین بار یا سات بار پڑھے باؤں خدا کے شافی درد سردور ہو جائیگا۔
اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میرے سر میں کبھی درد نہ ہو وہ شخص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد
سر پر ہاتھ رکھ کر سات مرتبہ اس آیت شریفہ کو پڑھے انشاء اللہ کبھی سردرد نہ ہوگا اور کبھی آنکھیں
نہیں دھکیں گی۔

بُسِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

دہشت اور گھبراہٹ کیلئے

جو شخص دہشت اور گھبراہٹ محسوس کرے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے:

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ
غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ
الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

تین بیماریوں سے عافیت

ہر نماز کے بعد تین بار جو شخص پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تین بیماریوں سے عافیت فرمائیں
گے۔ اندھا نہیں ہوگا۔ کوڑھ نہیں ہوگا۔ فالج نہیں ہوگا۔

اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِ اَللّٰهُمَّ
عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ
بَصَرِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَ اللّٰهِ
العَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

ہر مرض اور ہر درد کیلئے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

فائدہ: ہر مرض اور ہر درد کے واسطے، مقام درد پر ہاتھ رکھ کر ان آیتوں کو پڑھ کر تین مرتبہ
دم کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد صحت ہوگی۔

کان جھنجھانے کے وقت کی دعا

جب کان جھنجھانے لگے تو نبی کریم ﷺ کو یاد کرے، ان پر درود شریف پڑھے اور یہ کہے:

ذَكَرَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَكَرْنِيْ

جلے ہوئے پر یہ پڑھ کر دم کرے

اَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اَشْفِ

اَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ اِلَّا اَنْتَ

(نسائی، احمد عن محمد بن حاطب)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا فَتَّاحُ رَبِّ

يَا وَهَّابُ رَبِّ يَا كَرِيْمُ رَبِّ يَا رَحِيْمُ رَبِّ

ان اسماء کو لکھ کر آدے سر کے درد والے سر پر باندھ دے۔

چہرے اور پشت کے مسوں کا علاج

مونجھ کی غیر مستعمل رسی لیں پھر جتنی تعداد میں سے ہوں اتنی ہی گانٹھیں اس پر دیں گرہ دیتے وقت مریض سے پر شہادت کی انگلی رکھے اور عمل کرنے والا آیت کا یہ جملہ پڑھے دم کرنے کی ضرورت نہیں:

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا.

پھر دوسرے سے پر انگلی رکھے اور عامل آیت کا مذکورہ حصہ پڑھے اسی طرح جتنی ضرورت ہو عمل کر کے رسی کو پیٹ لیں اور کسی گندے بلے کے ذخیرے کے اندر دبا دیں جہاں کم سے کم دو ہفتے دبی رہے اس سے پہلے ہرگز نہ نکالیں۔ تین چار روز کے بعد سے از خود گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور چند دنوں میں جلد صاف ہو جائے گی۔ (فلاح دارین ص ۱۰)

چہرے کے کیل مہاسوں کا علاج

لیموں کا رس تین مرتبہ کپڑے سے چھنا ہوا دو تولہ عرق گلاب سے آٹھ دو تولہ گیسرین اعلیٰ دو تولہ تینوں چیزوں کو ایک شیشی میں ڈال کر یکجان کر لیں چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کیلئے ایک بہترین چیز تیار ہے۔ دن میں کم از کم تین مرتبہ استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔ چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور جلد رشیم کی طرح ملائم ہو جاتی ہے۔

اگر بدن یا چہرے پر کوئی داغ دھبہ ہو تو اکٹھا لیں مرتبہ دوا یا مرہم پر مندرجہ ذیل آیت دم کر کے استعمال کریں انشاء اللہ ہر طرح کا داغ دھبہ دور ہو جائے گا۔

مُسَلَّمَةٌ لِأَشْيَةٍ فِيهَا

(علاج قرآنی ص ۱۰۴)

درد چشم

شریحی لکھتے ہیں حضرت خواجہ شیخ فرید الدین سے جو بلاد ہند میں مشہور و معروف ہیں روایت ہے

کھانے والوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ہاتھوں پر یہ آیت

فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

سات بار اول و آخر درود شریف سات بار پڑھ کر پھونکنے اور آنکھوں پر پھیرنے سے نور
بصر و زوال ضرر کیلئے فائدہ ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

آنکھ دکھنے کی ایک اور دعا

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ
مِنْنِيْ وَارِنِيْ فِي الْعَدُوِّ ثَارِيْ وَانْصُرْنِيْ
عَلٰى مَنْ ظَلَمْنِيْ

الرجی اور ہر قسم کے دانوں کا علاج

بعض ازواج مطہرات سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن میرے پاس تشریف
لائے اس وقت میری انگلی میں دانہ نکلا ہوا تھا آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس
ذریہ ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس پر لگاؤ اور یہ کہو کہ:

اَللّٰهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيْرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيْرِ

وَصَغِّرْ مَا لِيْ

قدرت جماع

حسن بصری سے ذکر کیا گیا کہ فلاں شخص نے نکاح کیا مگر عورت پر قادر نہیں ہوا آپ نے
دوائے جوش دیئے (اے) ہوئے منگائے اور چھلکا اٹار کر ایک پر یہ آیت لکھی

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَدَيْنَا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

(سورۃ الذاریات آیت ۴۷)

اور مرد کو کھانے کیلئے دے دیا اور دوسرے پر یہ آیت لکھی

وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ

(سورۃ الذاریات آیت ۴۸)

اور وہ عورت کو کھانے کیلئے دے دیا اور کہا کہ اب مطلب حاصل کرو چنانچہ وہ کامیاب
ہوا۔ (اعمال قرآنی)
شیشے کے برتن میں آیت

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا

لکھ کر اس شخص کو پلایا جائے جو اپنی بیوی کی محبت سے باز رکھا گیا ہو انشاء اللہ ہر طرح
قادر ہو جائے گا۔ (محررات عملیات و تعویذات ۱۸۶)

ایک مجرب عمل

عورت کے پاس ایام طہارت کے پہلے پانچ دنوں میں جانے سے لڑکا ہوگا پھر آٹھویں
تاریخ تک لڑکی ہوگی پھر گیارہویں تاریخ تک لڑکا ہوگا پھر پچھرا ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر
کھڑے ہونے کی حالت میں صحبت کی جائے اور عورت نے دایاں پاؤں اٹھالیا تو لڑکا جنے گی
اور اگر بائیں پاؤں اٹھالیا تو لڑکی جنے گی۔ رازی کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تین دفعہ آزمایا اور صحیح
پایا ہے۔ (کنز ص ۲۰۳)

یہ عمل بھی بعض لوگوں کے تجربہ میں آیا ہے کہ اگر چاند کی طاق راتوں میں صحبت کی جائے
تو لڑکا ہوگا اور جفت راتوں میں ہو تو لڑکی ہوگی۔ واللہ اعلم

جریان کا علاج

جریان کے مریض کو سورہ حجرات تین بار پانی پر دم کر کے اکتالیس روز تک پلایا جائے
انشاء اللہ شفا ہو جائے گی۔ (عملیات کشمیری ۱۰۰)

بعد نماز عصر اول و آخر سات مرتبہ درود شریف اور سو مرتبہ یہ آیت پڑھنا جریان کیلئے بہت
مفید ہے۔

رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (عملیات کشمیری ۱۰۵)

کثرت احتلام کا علاج

بستر پر جاتے وقت سورہ طارق پڑھ لی جائے تو کبھی کثرت احتلام کا مرض نہیں ہوگا اور اگر پہلے سے یہ مرض ہو تو بالکل ختم ہو جائے گا۔ بہت مجرب ہے۔
(کمالات عزیزی ص ۱۰۶ مجربات عملیات و تعویذات ۱۵۳)

کثرت احتلام کا مریض سوتے وقت اپنے سینے پر شہادت کی انگلی سے ”عمر“ لکھے اور رات کو جب بھی آنکھ کھلے اسی طرح عمر لکھے انشاء اللہ ہرگز احتلام نہیں ہوگا۔ (آئینہ عملیات ۲۹۶)

آتشک اور سوزاک کا علاج

سوزاک کے مریض کو یہ آیتیں لکھ کر عرق گلاب میں گھول کر پلانا بہت مفید ہے۔

وَيَسْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
قَدْ جَاءَ تَكْمٌ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا
فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ
مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

(عملیات کشمیری ۱۰۴)

جسے سوزاک کی بیماری ہو گئی ہو اسے سورہ مزمل لکھ کر گلے میں ڈالی جائے اور بارش کے پانی پر دم کر کے پلایا بھی جائے انشاء اللہ مرض جاتا رہے گا مجرب ہے۔ (ایضاً ۱۰۴)

۱۰۱ بار یہ آیات پانی پر دم کر کے اکتالیس روز تک پلایا جائے انشاء اللہ آتشک کا مرض جاتا

رہے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالزَّرَعَتِ غَرْقَاهُ وَالنَّشِطَتِ نَشْطَاهُ وَالسَّجَّتِ
سَبْحَاهُ فَالْشَّيْئَتِ سَبْقَاهُ فَالْمَدَبَرَاتِ أَمْرَاهُ (۱۰۰۰)

برائے قرار حمل

جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو مندرجہ ذیل تین تعویذات لکھ کر اسے کھائے امید
کامل تو یہ ہے کہ پہلا تعویذ کھانے سے ہی حمل ہو جائے گا ورنہ دوسرا تعویذ کھائے انشاء اللہ
تیسری بار مرد کے قریب جاتے ہی عورت حاملہ ہو جائے گی۔ اور فرزند پیدا ہوگا۔ ان تینوں
تعویذات کو مشک زعفران اور گلاب سے لکھے۔

۱۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ وَالِي اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنُّورَ. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (۱) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ
۲۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنُّورَ. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (۱) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
تَمْتَرُونَ ۝ يَا أَيُّهَا اسْتَرَاهِيَا

۳۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ

وَالنُّورَ. ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (۱) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
تَمْتَرُونَ ۝ أَيُّهَا اِزْوَنِي أَصِيَا وَتَوَفَّ اللَّهُمَّ بِحَقِّ يَا مَالِكِ يَوْمَ
الْدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَ
كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا

أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ

اسقاط حمل کا علاج

اگر کسی عورت کو حمل نہ رہتا ہو تو یہ آیت چالیس دن تک چینی کے پیالے میں لکھ کر پائیں اور کاغذ پر لکھ کر کمر میں باندھیں انشاء اللہ حمل قرار پائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ
یَهْبُ لِمَنْ یَّشَآءُ اِنْشَآءَ یَهْبُ لِمَنْ یَّشَآءُ الذُّكُوْرُ
اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَّاُنْثٰی وَ یَجْعَلُ مَنْ یَّشَآءُ عَقِیْمًا
اِنَّهٗ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ (آئیدہ ملیات ۱۲۵)

۲۔ وضو کر کے ایک گوشے میں بیٹھ کر یہ کلمات لکھیں اور عورت کے پیٹ پر باندھیں انشاء اللہ حمل کرنے سے محفوظ رہے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ ۚ فَاللّٰهُ خَبِیْرٌ
حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ ۝ اَللّٰهُمَّ اَحْفَظْ حَمْلَ
هٰذِهِ الْمَرْأَةِ مِنْ جَمِیْعِ الْاَفَاتِ بِحَقِّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ
رَّسُوْلُ اللّٰهِ اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ - (اسلی ۴۹) (آئیدہ ملیات ۱۲۶)

جس عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہو تو سرخ کسوم کا رنگا ہوا دھاگہ اس کے قدم کے برابر لے اور سات یا گیارہ یا اکیس تار لے کر اس پر نو گرہیں لگائیں اور ہر گرہ پر

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَخْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِیْ صَبِیْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ
مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ (سورہ نساء ۱۰۴-۱۰۵)

اور سورہ کافرون پڑھ کر پھونکے دھاگہ عورت اپنی کمر پر باندھے انشاء اللہ حمل محفوظ رہے گا۔ (کمالات عزیز، ۱۰۱، اعمال قرآنی ۹۴)

برائے اولاد زینہ

جب حمل ازھائی ماہ کے قریب ہو اور تین ماہ کامل نہ گزرے ہوں تو صبح کی نماز کے بعد با وضو اول درود شریف پھر سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ لا ۱۱۱ تک پڑھیں اور نئے مٹی کے آنچورہ میں پانی لے کر اس پر دم کر کے حاملہ کو پلا دیں۔ سات دن یہ عمل کریں انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ مجرب ہے۔ (فلاح دارین ۹۶)

شروع مہینہ حمل میں اگر عورت کی داہنی پسلی پر سورہ اعلیٰ لکھ دیں تو انشاء اللہ اولاد زینہ پیدا ہو (اعمال قرآنی)

اولاد زینہ کیلئے

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ
الدُّعَاءِ ۝ سورة آل عمران آیت ۳۸

جس کی اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس آیت کو مغرب کے بعد سات مرتبہ پڑھے تو انشاء اللہ مقصد پورا ہوگا۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شب جمعہ میں نصف رات کے بعد مٹھائی یا حلوے کے ٹکڑے پر کسی ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں کوئی نہ دیکھے یہ آیت لکھے اور اسے عورت کو کھلائے اور پھر جماع کرے تین بار شب جمعہ کو یہ عمل کرے انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے ضرور بچہ پیدا ہوگا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

اولاد کیلئے

جب عورت حیض سے فارغ ہو جائے تو بکری کا ایک فرہ بچہ ذبح کر کے دیکھی میں پکا کر اس کی پختی دن میں پی لے اور یہ آیت پاک و صاف برتن میں اس طرح لکھے کہ کوئی حرف مٹا ہوا نہ ہو۔ اور پھر اسے دھو کر وہ پانی بوقت جماع عورت پی لے انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے استقرار حمل ہو جائے گا اور بچہ پیدا ہوگا۔

”الحمد لله رب العلمين ○ الرحمن الرحيم ○ ملك يوم الدين ○ اياك نعبد و اياك نستعين ○ اهدنا الصراط المستقيم ○ صراط الذين انعمت عليهم ○ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ○“

حیض کی کمی اور درد کا علاج

۱۔ جس عورت کی ماہواری میں کمی ہو اور اس سے تکلیف ہو تو ان آیات کو لکھ کر کمر میں اس طرح باندھیں کہ تعویذ رحم پر پڑا رہے۔ انشاء اللہ شفا ہوگی۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّحِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَقَجْرًا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ○ لِيَاْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ○ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ○ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمُ مِن نَّحْوِ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ○ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

کثرت حیض کا علاج

۱۔ حیض کا خون زیادہ آنے کی صورت میں سات دن تک سورہ و ہر پانی پر دم کر کے پلایا جائے۔ انشاء اللہ خون آنا بند ہو جائے گا۔

۲۔ جس عورت کی ماہواری میں زیادتی ہو اس آیت کو لکھ کر کمر میں باندھیں اس طرح کے تعویذ رحم پر پڑا رہے۔

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَبْسُ مَاءَ أَفْلَحِي وَيَغِيضِ الْمَاءُ وَفَلْيُضَى الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

۳۔ ۳۱۳ بار سورہ کوثر روزانہ بارش کے پانی پر دم کر کے پلانا کثرت حیض کی بیماری میں بہت مفید ہے۔

بچوں کی بدتمیزی کا سبب اور اس کا علاج

بچوں کی بدتمیزی اور نافرمانی کا سبب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کریں اور تین بار سورہ فاتحہ پانی پر دم کر کے بچے کو پلایا کریں۔
(آپ کے مسائل اور ان کا حل ج ۷ ص ۲۰۸ حضرت لدھیانوی شہید)

حالت مرض کی دعا

جو شخص حالت مرض میں یہ دعا چالیس بار پڑھے اگر مرے تو شہید کے برابر ثواب ملے گا اور اگر اچھا ہو گیا تو تمام گناہ بخشے جائیں گے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ
مِنَ الظَّالِمِينَ ❀

(سورہ رسول اکرم ﷺ ص ۵۷۸)

ڈاڑھ اور کان کے درد کیلئے عمل

جو شخص ہر چھینک کے وقت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ
حَالٍ مَا كَانَ ❀

کہے تو ڈاڑھ اور کان کا درد کبھی بھی محسوس نہ کرے گا۔

(حصن حصین ابن ابی شیبہ ص ۳۳۵)

بیمار کی شفا کیلئے

اگر کوئی بیمار ہو اور اس پر یہ آیت سات بار پڑھ کر دم کرے وہ بیمار بہت جلد اچھا ہو جائے گا۔ آیت یہ ہے:

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَغُلِّظْهُ مِنْ حَبَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

نیند نہ آنے کا مجرب علاج

۱۔ دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر سات بار آیت کا صرف اتنا حصہ پڑھیں:

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ

پھر ہاتھ پر دم کر کے سر پر پھیریں، انشاء اللہ خوب گہری نیند آئے گی۔

۲۔ اگر نیند نہ آ رہی ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ پڑھیں:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اس کے بعد درود شریف پڑھتے رہیں جس قدر روحیان اور توجہ سے پڑھیں گے اتنی جلدی نیند آ جائے گی۔

۳۔ بستر پر با وضو آئیں کروٹ قبلہ رخ لیٹ کر سات مرتبہ پڑھیں:

تَحْسِبُهُمْ أَيَقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ

انشاء اللہ خوب نیند آئے گی۔ (از حضرت مندل بابا جی مدظلہ)

مقررہ وقت پر بیداری کا خاص عمل

سورۃ کہف کی آخری آیات إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے تا آخر سورہ اول و آخر سات سات بار درود شریف..... ان کا ایصال ثواب جناب حضرت رسول اکرم ﷺ کیلئے کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ! مجھے اتنے بچے جگا دیجئے گا۔ انشاء اللہ اسی وقت آنکھ کھلے گی۔

اچھا رشتہ ملنے کیلئے اہم دعائیں

ماں باپ بڑے بہن بھائی کو چاہیے کہ بچوں اور چھوٹے بھائی بہنوں کو جوان ہونے کے بعد ایسی دعائیں یاد کروادیں جن میں اچھے رشتے کا ملنا اور عافیت کے ساتھ زندگی کا گزرنا طلب کیا گیا ہو۔ چونکہ یہ دعائیں خود اللہ تعالیٰ ہی نے بتلائی ہیں گویا آقا خود ہی بتلا رہا ہے کہ ہمارے دربار میں اہم سے اس طرح مانگو۔ لہذا وہ دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہیں۔

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ
اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔

اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اپنے خاص بندوں کی دعا فرمایا ہے۔ یہ دعا ہر مرد و عورت کو زندگی بھر مانگتے رہنا چاہیے۔ بہت مبارک دعا ہے اس میں شوہر بیوی، بچے خاندان سب کیلئے دنیا و آخرت دونوں کی دعائیں آگئی ہیں۔

بیٹے یا بیٹی کی شادی مبارک ہو

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ
نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

(سورۃ الفرقان آیت ۵۴)

فائدہ: اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی کا عقد نہ ہوتا ہو تو آپ اپنی اس مراد کیلئے ۲۱ دن تک ۳۱۳ بار اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔

بیٹا عالم فاضل اور ذہین ہو

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

(سورۃ النساء آیت ۱۱۳)

فائدہ: اگر آپ کا بچہ کند ذہن ہو یا طالب علم ہو تو اس کو مذکورہ آیت ۱۳۱ بار پانی پر پڑھا کر کے روزانہ پلائیں انشاء اللہ اس کی برکت سے عالم فاضل ہو جائے گا۔

عزت وقار اور نام پیدا کرنے کیلئے

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ وَلَهُ الْكِبْرِیَآءُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝

فائدہ: عزت وقار اور نام کیلئے ۱۱ بار روزانہ پڑھیں۔
(سورۃ الجاثیہ آیت ۳۶-۳۷)

امتحان میں آسان پرچوں کیلئے

فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۚ هُوَ الَّذِیْٓ اٰتٰكَ بِنَصْرِهِ
وَبِالْمُؤْمِنِیْنَ ۝

فائدہ: امتحان میں آسان پرچوں کیلئے فتح اور کامیابی کیلئے جانے سے پہلے ۷ بار ضرور پڑھ لیں۔

مقدمہ میں کامیابی کیلئے

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ
كَانَ زَهُوًّا ۝

فائدہ: اگر آپ کو مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنی ہو تو روزانہ کسی نماز کے بعد ۱۳۳ بار مذکورہ آیت پڑھ لو اگر حق پر ہو تب پڑھو، ناحق پڑھنے والا خود مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔

غصہ دفع کرنے کیلئے

وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

فائدہ: اگر آپ کو غصہ شدید آتا ہے اور آپ سے باہر ہو جاتے ہیں تو ۱۰ بار مذکورہ آیت ۲۱ دن تک چینی پر پڑھ کر کھالیں

بیٹے اور بیٹی کیلئے رشتہ نصیب ہو

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

(سورۃ النمل آیت ۶۲)

اگر پیدائش کے وقت سورۃ جاثیہ لکھ کر موم جامہ کر کے بچے کے گلے میں پہنائی جائے تو آسیب وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے۔ (گنجینہ اسرار)

اولاد کا مطیع ہونا

اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھا کرے اور ذریعہ کی جگہ اپنے بچے کا نام ذہن میں رکھے آیت یہ ہے:-

وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ

اگر نافرمان اولاد پر ایک ہزار مرتبہ "شہید" پڑھا جائے تو وہ فرمان بردار ہو جائے گی انشاء اللہ

زوجین میں محبت کیلئے

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَلَ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

شب جمعہ میں نصف رات گزر جانے کے بعد باوضو تین مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد پھر یہ کہے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّبُّ حَسْبِيْ (من فلان بن فلانة)
اَوْ فُلَانَةُ بِنِ فُلَانَةٍ اَعْطِفْ قَلْبَهُ اَوْ قَلْبَهَا اِلَيَّ وَذَلِّلْهُ
اَوْ ذَلِّلْهَا اِلَيَّ۔

اگر یہ وظیفہ پڑھنے والی عورت ہے تو فلاں بن فلاں کی جگہ شوہر کا نام لے جس کی محبت مطلوب ہے اور اگر یہ وظیفہ پڑھنے والا مرد ہے تو فُلَانَةُ بنت فُلَانَةٍ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے۔

بقول حضرت مولانا انور شاہ کشمیری یہ وظیفہ آزمودہ یعنی مجرب ہے۔ (گنجینہ اسرار)

برائے حب

۱۔ اس دعا کو کھانے کے اوپر ستر بار دم کر کے کھلائے جس کو کھلائے وہ محبت کرنے لگے گا۔ وہ دعا یہ ہے: يَا كَلْبَهُمُونا

۲۔ يَسْلُ يَا رَسُولُ اَجِيْزُ رَسُوْلُ بِسَحْقٍ اَشْرَاجًا مَّالِكُ يَوْمِ الدِّينِ
يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اس کو صرف اکتالیس مرتبہ پڑھ کر پان پر مطلوب کو کھلائے انشاء اللہ تعالیٰ مطلوب کا دل مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا۔ مجرب و آزمودہ ہے۔ بفضلہ تعالیٰ

۳۔ اول و آخر دس دس بار درود شریف پڑھے اور درمیان اس کے اسم یا ہند و فوج کو بیس تسبیح یعنی دو ہزار مرتبہ پڑھ کر مٹھائی پر دم کر کے مطلوب کو کھلائے انشاء اللہ تعالیٰ مطلوب تابعدار ہو جائے گا۔ یہ عمل آزمودہ اور مجرب ہے۔

۴۔ اگر کوئی شخص اپنی محبت میں کسی کو برقرار کرنا چاہے تو کسی گلاس وغیرہ میں پانی لے کر اس پر یا ہند و فوج سات بار پڑھ کر دم کرے اور اس میں سے تھوڑا سا پانی اپنے منہ میں لے کر غرارہ کی طرح پانی کو حرکت دے پھر اسی گلاس میں ڈال دے۔ جو اسے پئے گا اس سے محبت کرنے لگے گا۔

۵۔ تھوڑا سا سرمہ لے کر اس پر سورہ فاتحہ ۲۱ بار پڑھ کر دم کر کے اپنی آنکھوں میں لگا کر

جس کے سامنے جاوے وہ محبت کرنے لگے مگر اس کے دونوں کے نام اور اپنا نام اور اپنی ماں کا نام بھی ہو۔

۶۔ خوشبو کے سات عدد پھول لے کر ایک ایک پھول پر سات سات بار یہ آیت پڑھ کر دم کرے اور اس کے دونوں کا نام پھر اپنی ماں کا نام اور اپنا نام جس سے محبت کرنا چاہیے اس کو وہ پھول دے تاکہ وہ اس کو سونگھے اسی وقت محبت کرنے لگے گا۔

وہ آیت یہ ہے:

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ

عمل برائے تسخیر

۱۔ بعد نماز عشاء تین تسبیح یا دو دو یا دو دو یا رجم اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے مقصد کیلئے دعا مانگیں انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔ مجرب ہے۔ یہ عمل گیارہ یوم ہوگا۔ نوچندی جمعرات کو شروع کیا جاوے۔

۲۔ عمل اسم باری تعالیٰ اللہ تسخیر کیلئے مجرب ہے۔ اگر چاہیں کہ کسی کو دوست اور مسخر بنائیں یا کسی امیر سے نفع حاصل کرنا ہو تو چاہیے کہ عروج ماہ میں جمعرات یا جمعہ کے روز اس عمل کو شروع کریں۔ اس ترتیب سے کہ رات کے وقت دو زانو قبلہ رو ہو کر بیٹھیں اور اپنی آنکھیں بند کریں پہلے گیارہ بار آیت الکرسی العظیم تک پڑھیں بعدہ ایک ہزار دس بار اسم ذات مع عبارت کے پڑھیں اور اپنے مطلوب کو اپنے سامنے دست بستہ کھڑا ہوا تصور کریں۔ جب اسم تمام ہو جائے اس کے سینہ پر دم کریں۔ اور اپنے دل میں اشارہ کریں کہ میرا مطیع ہو جائے۔ اسی طرح چند روز تک بدستور پڑھیں اگر ممکن ہو تو کسی چیز پر دم کر کے مطلوب کو کھلائیں انشاء اللہ مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا۔

اگر اس اسم کی زکوٰۃ چالیس روز تک ہر روز ہزار ہزار بار پڑھیں تو اس مبارک اسم کے عامل ہو جائیں۔ پس تسخیر میں (اپنے لئے ہو خواہ غیر کیلئے) عمل مذکور کام آتا ہے۔ یعنی جس چیز پر دم کر کے کھلائیں یا پلائیں بڑا اثر پیدا ہو۔ زکوٰۃ میں آیت الکرسی بدستور مذکور ہر روز پڑھنی چاہیے اور جب چلہ تمام ہو تو شربت پر دم کر کے پی کرے بسم اللہ کی روح مبارک پر فاختہ دیں اور تھوڑا تھوڑا وظیفہ جاری رکھیں تاکہ ہمیشہ عمل قابو میں رہے۔ اسم ذات کے ساتھ یہ عبارت پڑھنی ہوگی۔

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قَلِّبْ قَلْبِي اِلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُطِيعٌ وَفَرْمَانِ بِرِدَارٍ هُوَ جَائِزٌ لَّكَ۔

۳۔ اگر کسی کو مسخر کرنا ہو تو ہر روز ہزار مرتبہ اس آیت اور اسماء کو پڑھ کر شیرینی یا پھولوں پر دم کریں اور محبوب کو کھلائیں یا سنگھائیں انشاء اللہ تعالیٰ مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا۔ مجرب و آزمودہ ہے۔ آیت اور اسماء یہ ہیں:-

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ يٰ اَرْفِقُ يٰ اَسْفِقُ لِحَبِيْبِيْ مِنْ كُلِّ حَبِيْبِيْ

۴۔ يٰ اَبْدِيعَ الْعَجَائِبِ يٰ اَخْيَرَ يٰ اَبْدِيعَ

پانچ سو بار پڑھے اول و آخر دس دس بار درود شریف خدا کے فضل و کرم سے تمام لوگ تابع رہیں گے کوئی وقت معین نہیں کوئی سبھی وقت مقرر کر لے۔ مجرب و مجرب ہے۔

۵۔ شخصی جاہ و عزت اور تسخیر کیلئے ذیل کا عمل دس بار پڑھ کر اپنے منہ پر مل کر جس کے پاس جائے گا وہ بے حد محبت سے پیش آئے گا اور اس میں بہت سے فائدے ہیں۔ مجرب ہے۔

اَلَا تَعْلَمُوْا عَلٰی وَاَنْتَوْنِیْ مُسْلِمِيْنَ يٰ اَخْيَرَ الْمَقْصُوْدِيْنَ يٰ اَخْيَرَ الْمَطْلُوْبِيْنَ يٰ اَخْيَرَ الْمُحِبُوْبِيْنَ يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

۶۔ عمل اسم باری تعالیٰ (اللہ) تسخیر کیلئے مجرب ہے۔ اگر چاہیں کہ کسی کو دوست اور مسخر بنائیں یا کسی امیر سے نفع حاصل کرنا ہو تو چاہیے کہ عروج ماہ میں جمعرات یا جمعہ کے روز اس عمل کو شروع کریں۔ اس ترتیب سے کہ رات کے وقت دو زانو رو بہ قبلہ ہو کر بیٹھیں اور اپنی آنکھیں بند کریں پہلے گیارہ بار آیہ الکرسی پڑھیں بعدہ ایک ہزار دس بار اسم ذات مع عبارت کے پڑھیں اور اپنے مطلوب کو سامنے دست بستہ کھڑا ہو تصور کریں۔ جب اسم تمام ہو جائے اس کے سینہ پر دم کریں۔ اور اپنے دل میں اشارہ کریں کہ میرا مطیع ہو جا۔ اسی طرح پندرہ روز تک بدستور پڑھیں اگر ممکن ہو تو کسی چیز پر دم کر کے مطلوب کو کھلائیں۔ انشاء اللہ مطیع اور فرمانبردار ہو جائے گا۔

اگر اس اسم کی زکوٰۃ چالیس روز تک ہر روز ہزار، ہزار بار پڑھیں تو اس مبارک اسم کے عامل ہو جائیں۔ پس تسخیر میں (خواہ اپنے لئے ہو خواہ غیر کیلئے) عمل مذکور کام آتا ہے۔ یعنی جس چیز پر دم کر کے کھلائیں یا پلائیں بڑا اثر پیدا ہو۔ زکوٰۃ میں آیت الکرسی بدستور مذکور ہر روز پڑھنی چاہیے اور جب چلہ تمام ہو تو شربت پر دم کر کے پیئیں کی روح مبارک کو ایصال ثواب کریں

اور تھوڑا تھوڑا وظیفہ جاری رکھیں تاکہ عمل ہمیشہ قابو میں رہے۔ اسم ذات کے ساتھ یہ عبارت پڑھنی ہوگی۔ یا مغلوب القلوب قلب قلبہ الی اور اگر عورت ہو تو کہیں قلبہ الی

لاعلاج مرض کیلئے

رَبِّهِ اَنِّیْ مَسْنِی الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ

الرَّحِیْمِ ﴿پارہ ۷ سورۃ الانبیاء آیت ۸۳﴾

۳۱۳ بار پڑھ کر دم کریں۔

چوری اور شیطانی اثرات سے حفاظت کیلئے

جو شخص سونے سے پہلے ۳۱ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو چوری اور شیطانی اثرات سے اور اچانک موت کے آنے سے محفوظ رہے گا۔

ظالم پر غلبہ حاصل ہو

جو مظلوم شخص کسی ظالم کے سامنے پچاس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس ظالم کو مغلوب کر کے پڑھنے والے کو غالب کریں گے۔ (خزانہ اعمال ص ۸)

ذہن اور حافظہ قوی ہو جائے

جس کسی کا حافظہ کمزور ہو وہ سات سو چھیالیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پر دم کر کے طلوع آفتاب کے وقت پئے تو ذہن کھل جائے گا۔ اور حافظہ قوی ہو جائے گا۔

حصول شفا کیلئے قرآنی وظیفہ

بعض روایات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ سورہ انعام پوری سورۃ جس مریض پر پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتے ہیں (معارف القرآن ج ۳ ص ۵۱۲)

شوہر کی ناراضگی دور کرنے کیلئے

۱۔ جس کا شوہر ناراض ہو وہ اپنے شوہر کو یہ آیت مٹھائی پر دم کر کے کھائے انشاء اللہ اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا إِذَا يَحِبُّهُمْ كَحِبِّ
اللَّهِ. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ
الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

۲۔ اگر سورہ یوسف لکھ کر بازو پر باندھے تو بیوی اسے دل سے چاہنے لگے۔

۳۔ اگر کسی میٹھی چیز پر لفظ ”ہذوح“ لکھ کر جسے کھائے وہ اس شخص کو بہت چاہنے لگے اور اس سے محبت کرے اور اگر لفظ بدوح چھری پر لکھ کر کوئی چیز اس چھری سے کاٹ کر کسی کو کھائے تو وہ شخص اس سے محبت کرنے لگے گا۔

۴۔ اگر شوہر و بیوی میں ناراضگی ہو تو اس نقش کو تعویذ بنا کر موم جامہ کر کے زوجین میں سے جس کو ضرورت ہو اپنے داہنے بازو میں باندھ لے۔ انشاء اللہ تمام اختلافات دور ہو جائے گے۔

دعا کی قبولیت کیلئے

۱۔ جمعہ کے دن بعد نماز عصر پوری آیت الکرسی ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد جس مقصد کیلئے بھی دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی۔

۲۔ اسم باری تعالیٰ ”کبیر السعالم“ کو ان دونوں ناموں کے اعداد کے مطابق یعنی ۳۷۷ بار پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے گی قبول ہوگی۔

۳۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا
أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ أَلَمْ نَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

۴۔ اس آیت میں لفظ اللہ متصل دو جگہ آ رہا ہے ان دونوں اللہ کے درمیان جس چیز کیلئے بھی دعا کی جائے گی انشاء اللہ ضرور قبول ہوگی۔

۵۔ جمعرات کے روز بعد نماز چاشت پانچ سو بار ”السمیع“ پڑھ کر دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوں۔

۶۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مجھ سے آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے سے پہلے اسے پڑھ لیا کرو۔

يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَمِينِ وَيَا رَاحِمَ
الْمَسَاكِينِ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

دافع پریشان خوابی کا عمل

اگر کسی کو سوتے وقت خواب میں برے برے خیالات اور وسوسے آتے ہوں تو سورہ الم نشرح ۹ بار پڑھ کر سویا کرے نہایت مجرب ہے۔

حصار کی ترکیب

شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خوف کی جگہ ہو یا کوئی جلائی یا بجائی عمل پڑھے (یا جنات، بھوت پریت، آسیب اور شیطین وغیرہ کا خطرہ ہو) تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے گرد حصار قائم کر لے جو ان سب آفات کیلئے مجرب ہے۔
ترکیب: آیت الکرسی ایک بار اور چاروں قل ایک ایک بار پڑھ کر اپنے چاروں طرف حصار کرے اور چاقو سے خطا کھینچے

چہرے اور پشت کے مسوں کا علاج

بعض لوگوں کو بدن کے اکثر حصے پر مسے ہو جاتے ہیں اور بدن نامعلوم ہوتے ہیں ان کے ختم کرنے کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل عمل کو آزما کر دیکھ لیں انشاء اللہ بلا تکلیف مسے جھڑ جائیں گے۔ مونجھ کی غیر مستعمل رسی لیں پھر جتنی تعداد میں سے ہوں اتنی ہی گرہیں اس پر دیں۔ گرہ دیتے وقت مریض مسے پر شہادت کی انگلی رکھے اور عمل کرنے والا آیت کا یہ حصہ

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

پڑھے دم کرنے کی ضرورت نہیں پھر دوسرے مسے پر انگلی رکھے اور عامل آیت کا حصہ پڑھے اسی طرح جتنی ضرورت ہو عمل کر کے رسی کو لپیٹ لیں اور کسی روڑی پر گندے پلے کے ذخیرہ کے اندر دبا دیں جہاں کم سے کم دو ہفتے دبی رہے اس سے پہلے ہرگز نہ نکالیں۔ تین چار روز

کے بعد سے از خود گرنے شروع ہو جائیں گے اور چند دنوں میں جلد صاف ہو جائیگی۔

چہرہ خوبصورت ہو جائے

چہرے کی خوبصورتی کیلئے روزانہ ایک بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ
كَشْكُوفَةٍ فِيهَا مَصْبَاحٌ الْبُصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ الرُّجَاةُ
كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ
زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضَيُّ
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ
لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

پھوڑے پھنسی کا تیر بہدف علاج

شہادت کی انگلی پر لعاب لگائیں پھر تین بار بسم اللہ اللہ اکبر اور ایک بار اَمِّ اِسْرَمُوْ
اَمْرًا فَاِنَّا مَبْرَمُوْنَ (زخرف ۷۹) پڑھ کر دم کریں اور وہ لعاب پھوڑے پھنسی یا زخم پر لگائیں۔
سمان اللہ عجیب و غریب تاثیر رکھتا ہے۔ خصوصاً وضو کے فوراً بعد اعضاء کو خشک کرنے سے پہلے
اگر یہ عمل کیا جائے تو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ عورتوں کیلئے یہی دم تیل پر کر کے دیں یعنی
لعاب پر دم کر کے اسے تیل میں شامل کر دیں۔ الحمد للہ اس دم کی برکت سے کوڑھ جیسی بیماری
کے مریض بھی ٹھیک ہو گئے۔ وہ افراد جن کی انگلیوں کے پورے گل کر گر رہے تھے اس دم والے
تیل کے لگانے سے بالکل ٹھیک ہو گئے۔

چہرے کے کیل مہاسوں کا علاج

لیموں کا رس تین بار کپڑے سے چھتا ہوا دو تولہ، عرق گلاب سا آتش دو تولہ، گیسرین بڑھیا

والی دو تولہ تینوں چیزوں کو ایک شیشی میں ڈال کر یکجان کر لیں۔ چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کیلئے ایک بہترین چیز تیار ہے۔ دن میں کم از کم تین مرتبہ استعمال کرنے چہرے کے داغ دھبے، کیل مہاسے وغیرہ کے دغیرہ کیلئے بے حد مفید ہے۔ چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے اور جلد ریشم کی مانند ملائم ہو جاتی ہے۔

داغ دھبوں کا علاج

اگر بدن یا چہرے پر کوئی داغ دھبہ ہو اور اسے دور کرنا مقصود ہو تو آکسالیس مرتبہ دوا یا مرہم پر مندرجہ ذیل آیت پڑھ کر دم کریں اور پھر وہ دوا یا مرہم استعمال کریں انشاء اللہ ہر طرح کا داغ دھبہ دور ہو جائے گا۔

مُسَلَّمَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا

فالج، لقوہ اور شیاطین سے حفاظت کیلئے

سوئے وقت اس آیت کو پڑھنے والا فالج، لقوہ اور شیاطین کی شرارت سے محفوظ رہتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيُزَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ. تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

(سورہ اعراف آیت ۵۴)

گویا والدین کا حق ادا کر دیا

ایک روایت میں آیا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو ان کو ایک حج کا ثواب ہوتا ہے اور حج کرنے والے کیلئے ۹ حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ علامہ عینی نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص ایک بار یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ کہے یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے تو اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ دعا یہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ السَّمَوَاتِ
وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعُظَمَاءُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الْمَلِكُ
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ
الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ط

(حل مشکلات اور قضائے حاجات کے مؤثر، مجرب اور خاص اعمال)

يَا لَطِيفُ كَامِل

عشاء کی نماز کے بعد دو رکعت نماز صلوٰۃ الحاجت پڑھیں نماز کے بعد گیارہ بار سورہ الم نشرح پڑھیں پھر گیارہ بار درود شریف پڑھ کر سولہ ہزار چھ سو اکتالیس (۱۶۶۴۱) بار یا لطیف پڑھیں اور آخر میں گیارہ بار درود شریف پڑھ کر اپنے مقصد کیلئے دعا مانگیں۔ بہت عجیب اور سریع اثر شیر عمل ہے۔

عمل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک سو اکتیس (۱۴۹) دانے والے تسبیح لے کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں ایک تسبیح پڑھ کر ان چاروں آیات کو پڑھیں یا ان میں سے کسی ایک کو پڑھیں۔

آیت نمبر: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

(الانعام ۱۰۳)

آیت نمبر ۲: اَللّٰهُ لَطِیْفٌ بِعِبَادِهِ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیْزُ (الشوریٰ ۱۹)

آیت نمبر ۳: اَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ (الملک ۱۴)

آیت نمبر ۴: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰی یُوسُفَ اَوٰی اِلَیْهِ اَبُوْیْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِیْنِ ۝ وَرَفَعَ اَبُوْیْهِ عَلٰی الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَہٗ سَجْدًا ۚ وَقَالَ یٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاوِیْلُ رُّءُیَاۤی مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلْتُ لَیْسٰی حَقًّا ۚ وَقَدْ اَحْسَنَ بِیْ اِذْ اَخْرَجْتَنِ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِکُمْ مِنَ الْبَدُوِّ مِنْۢ مَّ بَعْدَ اَنْ تَزْعَ الشَّیْطٰنُ یٰۤیْسٰی وَبَیْنَ اِخْوَتَی ۚ اِنَّ رَّبِّیْ لَطِیْفٌ لِّمَآ یَشَآءُ اِنَّہٗ هُوَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ (یوسف ۹۹-۱۰۰)

آیت پڑھنے کے بعد پھر ایک تسبیح پڑھیں اور ہر تسبیح کے بعد چاروں آیات یا ان میں سے کوئی ایک یا دو آیات پڑھیں۔ یہ عمل ایک سو انتیس بار دہرائیں اس طرح کل عدد ۱۶۶۴ پورا ہو جائے گا۔ یعنی ایک سو انتیس دانوں والی تسبیح ایک سو انتیس بار پڑھیں۔

درمیان میں جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کو دشمنوں کی طرف سے تکلیف اور پریشانی ہو تو وہ ہر تسبیح کے بعد آیت نمبر ۱ پڑھے۔ جو روزی کی تنگی اور مشکل کا شکار ہو وہ آیت نمبر ۲ پڑھے۔

جو کسی مرتبے مقام عہدے یا درجے کا طلب گار ہو وہ آیت نمبر ۳ پڑھے

جو قید و بند کی مصیبت میں مبتلا ہو وہ آیت نمبر ۴ پڑھے

اور جسے چاروں طرح کی مشکلات درپیش ہوں وہ چاروں آیات پڑھ لے اسی طرح دوا یا تین آیات بھی حسب ضرورت پڑھ سکتے ہیں۔

اس عمل کیلئے عشاء کے بعد کا وقت بہترین ہے وضو اچھی طرح آداب و اہتمام سے کریں عمل توجہ اور محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ذکر اللہ کی نیت سے کریں اور تواضع اختیار کریں۔ یاد رکھیں یا لطیف کا اسیر عمل اسے بہت فائدہ دیتا ہے جو تواضع اختیار کرنے والا ہو۔ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار یہ عمل ضرور کر لیں۔ تب زندگی کا رخ آسانیوں اور رحمتوں کی طرف ہو جاتا ہے اور اگر توفیق ملے تو بار بار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جتنا کیا جائے اتنا مفید ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اگر روزانہ ایک سو انتیس بار یا لطیف کو معمول بنالیں اور آخر میں کوئی آیت بھی پڑھ لیا کریں تو بے حد مفید ہے۔

بسم اللہ کا عمل

اول و آخر سات سات مرتبہ درود شریف مصطفیٰ پر قبلہ رخ بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھ کر اپنی حاجت کیلئے دعا کریں۔ پھر ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھ کر اپنی حاجت کیلئے دعا کریں۔ یہ عمل بارہ مرتبہ دہرائیں۔ اس طرح کل بارہ ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہو جائے گی اور بارہ مرتبہ دو رکعت نماز اور بارہ مرتبہ دعا۔

درود شریف عمل کے شروع اور آخر میں سات سات بار پڑھ لیں اور دعاء میں ہر بار ایک حاجت پیش کریں یا دو یا تین اس سے زیادہ نہیں۔

یہ عمل بے حد مؤثر اور مفید ہے ناجائز کاموں کیلئے ہرگز نہ کریں اور نہ ہی فضول اور مکروہ کاموں کیلئے۔ (تلقین فرمودہ امام العارفین حضرت مولانا قاری محمد عرفان صاحب زید مجدہم)

سورہ اخلاص کا مجرب عمل

باد وضو قبلہ رخ بیٹھ کر ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھیں پہلی مرتبہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ پھر باقی بغیر بسم اللہ کے پڑھیں عمل کے اول و آخر میں سات سات بار درود شریف پڑھ لیں۔ آخر میں اپنے مقصد کیلئے دعا کریں۔ بہت طاقتور عمل ہے اور بعض اہل علم نے اسے اسم اعظم قرار دیا ہے۔

سورہ فاتحہ کا مجرب عمل

اچھی طرح وضو کر کے خلوت میں دو رکعت صلوٰۃ الحاجت پڑھیں پھر کھڑے ہو کر گیارہ بار درود شریف پڑھیں پھر اکتالیس بار سورہ فاتحہ (الحمد شریف) اس طرح پڑھیں کہ پہلے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پھر دو بارہ بسم اللہ اس طریقے سے پڑھیں کہ الرحیم کی میم کو الحمد کے لام سے ملا دیں (رحیم الحمد للہ) اس طریقے سے اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سجدہ میں چلے جائیں اور اپنی مشکلات کے حل کیلئے دعا کریں۔ انشاء اللہ ضرور قبول ہوگی۔ اس عمل میں بیاسی بار بسم اللہ پڑھی جائے گی اور اکتالیس بار سورہ فاتحہ نیز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھنا بھی بے حد مفید ہے۔

سحر کا مجرب علاج

بیری کے سات پتے جن میں سوراخ نہ ہو لے کر ان میں سے ہر پتے پر تین بار یہ آیت پڑھیں اور ہر بار پڑھ کر دم کریں

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ..... سے..... لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

تک پوری آیت (البقرہ ۱۰۲)

اس طرح سات پتوں پر کل اکیس بار یہ آیت پڑھی جائے گی۔ ان پتوں کو پاک ہاتھوں سے توڑ کر پانی میں ڈال دیں۔ مریض سات دن تک یہ پانی پیتا رہے۔ پانی کم ہونے پر مزید پانی ملا تے رہیں۔ یہ پانی گھر اور دوکان پر بھی چھڑکیں۔ انشاء اللہ شفاء ہوگی۔ مجرب ہے۔

عمل آیت الکرسی

حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرقدہ جادو کے علاج کیلئے عمل آیت الکرسی تلقین فرمایا کرتے تھے عمل آیت الکرسی یہ ہے:

درود شریف تین بار، سورہ فاتحہ تین بار، آیت الکرسی تین بار، سورہ اخلاص تین بار، سورہ فلق تین بار، سورہ والناس تین بار، تین بار درود شریف

فجر ظہر اور عشاء کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں۔ یہ دم مریض پر بھی کیا جاسکتا ہے۔ بعض مشائخ اس میں سورۃ الکافرون کا اضافہ بھی فرماتے ہیں۔

دل کی غفلت دور کرنے اور ہدایت پانے کیلئے

وَاهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى

(سورہ النازعات ۱۹)

فائدہ: جو سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہو یا برے افعال میں پڑ گیا ہو یا اللہ کی طرف سے غافل ہو گیا ہو تو اس آیت کو روزانہ ۱۰ بار پانی پر دم کر کے اسے پلائیں۔

دشمنوں اور ظالموں سے حفاظت کے اعمال

حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی مفتی اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ دشمنوں سے حفاظت کیلئے درج ذیل چار اعمال تلقین فرماتے تھے یہ اعمال بندہ کے مجرب ہیں:

سورہ قریش کا عمل

مغرب کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ قریش ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں بہت مقبول، مفید اور مؤثر عمل ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھیں۔

ایک مسنون دعاء

عصر کے بعد ۳۱۳ بار یہ مسنون دعاء پڑھیں

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

اول و آخر درود شریف پڑھیں۔

ایک آیت کریمہ کا عمل

عصر کے بعد پہلے دن ۶۱۳ مرتبہ اور آئندہ جس قدر چاہیں پڑھیں

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَا

(اتقر ۴۵) اول و آخر درود شریف

اللہ الصمد کے خواص

(ماخوذ از تہکات مرتبہ حکیم محمد مشیر الدین صاحب رحمہ اللہ بابوزئی، شاہجہانپور)

۱۔ جس کسی کو مہم (اہم ضرورت) کئی وجوہی پیش آئے کسی طرح حل نہ ہو سکتی ہو چاہے کہ اس کو نماز فجر و عشاء کے بعد ہزار بار اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے اور جو شخص بعد ہر نماز سو سو بار پڑھے کسی وقت رنجیدہ نہ ہو اور ایمان سلامت رہے۔

۲۔ اگر اللہ الصمد نماز عصر کے بعد پچاس بار پڑھے تو اس کا مرتبہ دونوں جہان میں بلند ہو۔

۳۔ اگر کسی کو کام مشکل و دشوار پیش ہو اور کوئی حل کی صورت نہ ہو تو بدھ کی رات کو نہاوے اور ہزار بار پڑھے اس کا کام انشاء اللہ تعالیٰ پورا ہو جائے۔

۴۔ جو کوئی تہجد کی نماز کے وقت بہت سا پڑھے جمال و جلال اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نصیب ہو۔ سب خلائق آسمان و زمین چرند پرند سب اس سے محبت رکھیں۔

۵۔ جس نے بعد عشاء اللہ الصمد پر مداومت کی صرف سو بار زیارت رونی فداہ حضرت رسول مقبول ﷺ سے مشرف ہوگا۔

۶۔ اس اسم کی نو ہزار خاصیتیں ہیں جو شخص اللہ الصمد کا نقش اپنے گھر میں رکھے کچھ درد و اذیت نہ پہنچے اور دشمن نقصان نہ پہنچا سکے۔ نقش یہ ہے:

۳۹	۵۳	۵۶	۳۲
۵۵	۴۳	۳۸	۵۴
۳۴	۴۸	۵۱	۳۷
۵۲	۳۶	۳۵	۵۷

۷۔ اگر کسی معاملہ کو دریافت کرنا چاہے تو اس کو چاہیے بارہ روز تک بارہ ہزار مرتبہ اللہ الصمد پڑھے سب بھید ظاہر ہو جائیں گے۔

۸۔ جو کوئی چاہے کہ کوئی خزانہ غیب سے پائے یا معلوم کرنا چاہے تو چھ رات دن ہر دن چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ مرتبہ اللہ الصمد پڑھے خزانہ خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ یا کوئی بزرگ خواب میں آکر اطلاع دے گا۔

۹۔ نماز صبح و عصر کے بعد چھ سو مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا کسیر ہے۔

۱۰۔ بعد عشاء سو مرتبہ روز پڑھے تو عذاب قبر سے نجات پائے۔

زکوٰۃ بارہ ہزار بارہ سو مرتبہ..... قفل تین ہزار تین سو تریسٹھ مرتبہ

اور دور دور تین سو ساٹھ مرتبہ

رحمتوں والے
اعمال
کم عمل
زیادہ ثواب

ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص صبح کو یہ دعائیں بار پڑھ کر پھر سورہ حشر کی آخری تین آیتیں پڑھے گا تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کیلئے دعا کرتے رہیں گے اور اگر رات کو پڑھے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعا کریں گے اور اس دن مر گیا تو شہید مرے گا۔ (ترمذی)

أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ
الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

پھر سورہ حشر کی آخری تین آیتیں:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝
هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَنَ اللّٰهِ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (ترمذی)

مجلس کے خاتمہ پر مبارک دعا

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

(متدرک جلد ۱ ص ۵۳۶)

فائدہ: اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ اگر مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں گی تو یہ کلمات ان پر مہر بن جائیں گے اور اگر فضول اور لغو باتیں کی ہوں گی تو وہ معاف ہو جائے گی۔

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ
يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ❀

(معارف القرآن جلد ۷ ص ۶۸۷)

ابدال بنے کا نسخہ

حضرت امام غزالی نے احواء العلوم میں تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ یہ دعائیں مرتبہ پڑھے گا اس کیلئے ابدال کا درجہ لکھا جاتا ہے۔ ابدال اولیائے کرام میں ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ دعا یہ ہے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(مظاہر حق جدید ج ۳ ص ۵۹ قسط ۱۳۰)

مشکلات آسان ہو جائیں

رسول مقبول ﷺ نے فرمایا جو شخص صبح ہوتے ہوئے اور شام ہوتے ہوئے یہ دعائیں مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کاموں کا کفیل ہو جائے گا اور تمام فکروں سے نجات ہو جائے گی۔ یعنی اس کی تمام حاجات پوری اور مشکلات آسان ہو جائیں گی دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن صبح کی نماز سے پہلے تین مرتبہ پڑھ لے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے دعا یہ ہے:

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (ذکر اللہ ۱۷)

حضرت شیخ بوئیؒ کا ایک خاص الخاص عمل

جس کو کوئی حاجت درپیش ہو وہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے روزے رکھے۔ جمعہ کے روز غسل کر کے مسجد جائے۔ راہ میں کچھ صدقہ دے پھر نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ.
وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ. الَّذِي مَلَأَ عَظَمَتُهُ السَّمُوتَ
وَالْأَرْضَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ عَنَّتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَخَشَعَتْ لَهُ الْأَبْصَارُ وَوَجَلَّتِ الْقُلُوبُ مِنْ
خَشْيَتِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُعْطِيَنِي
مَسْأَلَتِي وَتَقْضِيَ حَاجَتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ.

یہاں اپنی ضرورت کا نام لے جو اسی وقت پوری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا یہ دعا جاہلوں کو نہ سکھاؤ ورنہ وہ ایک دوسرے پر بددعا کریں گے اور قبول ہوگی۔ (شمس المعارف الکبریٰ ص ۲۵۹)

قید سے رہائی کا عمل

جمعرات کی رات اس دعا کو ایک ہزار بار پڑھیں۔ قید سے حفاظت اور قید سے خلاصی کیلئے مجرب ہے:

يَا رَبِّ اَنْتَ صَمَدِي وَمَنْكَ مَدَدِي وَعَلَيْكَ مُعْتَمِدِي

اول آخر گیارہ بار یہ درود شریف پڑھیں:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهٖ وَ عَتَرَتِهٖ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ

یہ درود شریف درود قادری کہلاتا ہے۔ اور اس عمل کی تلقین ہمارے شیخ، شیخ طریقت حضرت مولانا سید محمود صاحب عرف صندل بابا جی زید مجدہ فرماتے ہیں۔ نیز روزانہ ایک ہزار بار یا واحد یا احد پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قید سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔

ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص لا اِلهَ اِلَّا اللهُ پڑھے گا اس کیلئے جنت واجب ہو جائے گی اور جو شخص سو مرتبہ پڑھے گا اس کیلئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (الحاکم وقال صحیح الاسناد)

اور اس تسبیح کے ہر مرتبہ پڑھنے پر جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ (بزار)

بے بسی ختم ہو اور کام جلدی ہو

رزق کی ترقی اور برکت کیلئے یا کوئی کام بس سے باہر ہو اور کوئی وسیلہ نظر نہ آتا ہو یا اگر کسی کام میں آسانی اور جلدی مطلوب ہو تو سورۃ المزمل ایک۔ بیٹھک میں ۴۱ بار تین دن تک پڑھیں اس عمل سے دوسروں کو مقصان پہنچانا مقصود نہیں ہونا چاہیے

عظیم الشان وظیفہ

حضرت ابویوب انصاریؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب سورہ فاتحہ آیت الکرسی، آیت شہد اللہ اور قل اللہم مالک الملک..... بغیر حساب نازل ہوئی تو عرش سے معلق ہو کر فریاد کی کہ کیا آپ ہم کو ایسی قوم پر نازل فرما رہے ہیں جو گناہوں کا ارتکاب کریں گے ارشاد ہوا کہ قسم ہے میری عزت و جلال اور ارتقاع مکان کی کہ جو لوگ ہر نماز فرض کے بعد تمہاری تلاوت کریں گے ہم ان کی مغفرت فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں جگہ دیں گے اور ہر روز ستر مرتبہ نظر رحمت سے دیکھیں گیا اور اس کی ستر حاجتیں پوری کریں گے جس کا کوئی درجہ مغفرت ہے۔ (دیلی)

فائدہ: بعض روایات میں ہے کہ ہم اس کے دشمنوں پر اس کو غلبہ عطا کریں گے۔ (تفسیر روح المعانی پ ۳ ص ۱۰۶)

پڑھنے کا طریقہ: الحمد شریف، آیت الکرسی پڑھ کر یہ پڑھے
 شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْقُسْطِ
 لَأَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ قَدْ وَمَا
 اخْتَلَفَ الدِّينَ أَوْ تَوَالَّفَ الْكُتُبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا
 بَيْنَهُمْ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ پھر یہ پڑھے
 اللَّهُمَّ مِلْكُ الْمَلِكِ تُوْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ
 تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ
 وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ ۚ وَتَرْزُقُ مَنْ
 تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمات

حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں ترازو میں بہت وزنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

دشمن سے حفاظت کیلئے

اگر اس دعا کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن پر بھیر لے تو دشمن سے محفوظ رہے گا۔ دشمن کے جہوم سے بھی گزر جائے تو وہ اسے نہ دیکھ سکیں گے وہ یہ ہے:

لَا تُذِرْكُهُ الْأَبْصَارُ، وَهُوَ يُذِرُكَ الْأَبْصَارُ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (سورہ انعام ۱۰۳)

مال کا گم ہو جانا

۱۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھ کر اپنی گم شدہ چیز کے مل جانے کی دعا کر لے انشاء اللہ بہت جلد وہ چیز مل جائے گی۔

”يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ اجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَ كَذَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ الشَّيْءِ“

”ذَلِكَ الشَّيْءُ“ کی جگہ اپنی گم شدہ چیز کا تذکرہ کرے اسی طرح اگر کسی انسان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہے تو اس شخص کا نام لے۔

۲۔ اگر کسی چیز یا مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو سورہ قصص لکھ کر اس جگہ لٹکا دے جہاں مال رکھا ہوا ہو انشاء اللہ وہ مال ضائع اور ہربا نہیں ہوگا۔

۳۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوگئی ہو تو سورہ والضحیٰ سات بار پڑھ کر اس چیز کی واپسی کیلئے دعا کرے۔ جب وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ پر پہنچے تو اسے تین بار پڑھے انشاء اللہ وہ چیز مل جائے گی اگر وہ چیز نہیں ملے گی تو اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔

۴۔ اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہوگئی ہو تو جس دروازہ سے مال نکلا ہو اس دروازہ پر کھڑا ہو کر سورہ الطارق پڑھنے سے وہ مال واپس مل جائے گا۔

۵۔ جس شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو ۱۱۹ بار یا حنیف اور ۱۱۹ بار یہ آیت پڑھ کر اس چیز کی واپسی

کی دعا کرے انشاء اللہ وہ چیز مل جائے گی۔ مجرب ہے آیت یہ ہے۔
 يَسْأَلُهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي
 السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ
 ۱۔ گمشدہ چیز کے مل جانے کیلئے اس دعا کی کثرت کر لے:

”يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ اجْمَعْ عَلَيَّ
 صَلَاتِي.“

انشاء اللہ اس دعا کی برکت سے وہ چیز مل جائے گی۔
 ۷۔ ان آیتوں کو روٹی یا کسی کھانے کی چیز پر لکھ کر جس پر چوری کا شبہ ہو اسے کھائے اگر وہ
 واقعی چور ہوگا تو وہ نہیں کھا سکے گا۔ آیات یہ ہیں:

”وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَإِذْ رَأَيْتُمُ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ
 مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَاذُ
 يُسِغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ
 بِمَمِيئٍ ۖ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۝ إِلَّا
 يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا
 تُعْلِنُونَ ۝ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ ۝ وَيَا لِحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا
 أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَصَلَّى اللَّهُ
 عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.“

۸۔ اگر کسی کی کوئی چیز کھو گئی ہو تو اپنی انگشت شہادت کو اپنے سر کے چہار جانب گھماتے ہوئے
 سات مرتبہ سورہ النحل پڑھے پھر ایک مرتبہ

”أَصْبَحْتُ فِي أَمَانِ اللَّهِ وَأَمْسَيْتُ فِي جَوَارِ
 اللَّهِ أَمْسَيْتُ فِي أَمَانِ اللَّهِ أَصْبَحْتُ فِي
 جَوَارِ اللَّهِ“

(مغربات حضرت مولانا عبد اللہ شہید)

پڑھ کر تین مرتبہ تالی بجائے اس عمل کے دوران کھوئی ہوئی چیز کا تصور ذہن میں رکھے اور اللہ بہت جلد وہ چیز مل جائے گی۔ نہایت مجرب عمل ہے۔

مفرور کی واپسی

جمعہ کی رات میں نماز عشاء کے بعد دو رکعت نماز پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین بار سورہ اخلاص پڑھے پھر سلام پھیر کر گیارہ بار درود شریف پڑھ کر دو ہزار بار سورہ والضحیٰ مع بسم اللہ پڑھے اور پھر گیارہ بار درود شریف پڑھ کر بھاگے ہوئے کی واپسی کی دعا مانگ کر سو جائے۔ انشاء اللہ مفرور بہت جلد واپس آ جائے گا۔

۲۔ دو رکعت نفل نماز پڑھ کر ایک ۱۱۹ بار یہ آیت پڑھ کر دعا مانگے انشاء اللہ بھاگ بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا۔ یہ عمل ۴۰ روز تک جاری رکھے۔ آیت یہ ہے:

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْهِ مَعَادٍ

۳۔ اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہو تو ۴۰ روز تک اس آیت کو لکھ کر چرخہ میں باندھ کر روزانہ ۶۰ بار الٹا گھمائے انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے بھاگ بھاگا ہوا واپس آ جائے گا۔

”فَرُدْ ذُلَّهُ إِلَىٰ أُمِّهِ حَتَّىٰ تَقْرَ عَنْهَا وَلَا تَحْزَنْ
وَلَتَعْلَمَنَّ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ“

۴۔ چالیس روز تک روزانہ دو رکعت نفل نماز پڑھ کر ۱۱۹ بار یہ آیت پڑھے اور پھر بھاگے ہوئے کی واپسی کیلئے دعا کرے۔ انشاء اللہ مفرور واپس آ جائے گا۔

يُسَيِّئُ إِنَّهَا إِن تَكُ مِنْقَالًا حَبِيبَةً مِنْ حَرَدٍ لَّتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ
فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

مکان کی حفاظت کیلئے

جس مکان میں جن و شیاطین یا آسیب یا بھوت پریت چڑیل وغیرہ ارواح خبیثہ کا اثر ہو تو ہر کے دن یا بدھ یا جمعرات کے دن بساعت مشتری یا زہرہ پوری سورہ بقرہ اس مکان میں بیٹھ کر درمیانی آواز سے پڑھے اور ایک گلاس پانی کا بھر کر اپنے قریب رکھ لے اور جب سورہ ختم

ہو جائے تو اس پانی پر دم کر کے مکان کی دیواروں پر اس طرح چھڑک دے کہ پانی زمین پر نہ گرے اور ساعت کا حساب سورج نکلنے کے وقت سے لگائے۔
انشاء اللہ تعالیٰ کسی قسم کا اثر مکان میں نہ رہے گا۔ مجرب ہے۔

برائے ہر مشکل

حضرت محی الدین جیلانیؒ نے فرمایا جو شخص ۱۱۱ بار اس دعا کو پڑھے جو کچھ مشکل رکھتا ہو حق تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان کرے۔ جو کچھ میں نے پایا اس دعا کے پڑھنے سے پایا۔ اس دعا کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھے اس وقت تک جب تک کہ مقصد میں کامیابی ہو۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَلْکَافِیْ اَلْکَافِیْ وَ مُقَدِّمُ اَلْکَافِیْ وَ حَاجِدُ
اَلْکَافِیْ بِکَافِیْ اَلْکَافِیْ وَ کَفَّایِیْ اَلْکَافِیْ وَ نِعْمَ اَلْکَافِیْ
وَبِشَہَادَةِ الْحَمْدِ ط

اس کے اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھے

مردہ یا زندہ کو خواب میں دیکھنا

سونے سے پہلے چاہیے کہ وضو کرے اور پاک لباس پہنے خوشبو اور عطر وغیرہ لگائے اور ایک بار سورہ والیل اور ایک بار سورہ واسن پڑھے بعد اس کے یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اَرِنِیْ فِیْ مَنَامِیْ کَذَا وَ کَذَا وَ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ
اَمْرِیْ کَرْحًا وَ مَخْرَجًا وَ اَرِنِیْ فِیْ مَنَامِیْ مَا اسْتَدِلُّ
بِہِ عَلٰی اِحْیَاۃٍ دَعُوْنِیْ.

برائے حاجت

۱۔ بعد نوافل مغرب تہائی میں بیٹھ کر اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ۱۰۰ بار یا رَبَّ یا رَبَّ یا رَبَّ کہے جو خدا سے چاہے گا وہ ملے گا اور اگر ہزار بار اس کی تکرار کرے گا تو یقیناً اس کی حاجت پوری ہوگی۔ سات دن تک اس عمل کو کرے عروج ماو میں نوچندی جمعرات سے شروع کرے۔

۲۔ جس شخص کو کوئی سخت سے سخت کام درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد جہدہ

میں سر رکھ کر چند بار یہ کلمات پڑھے جب تک وہ پریشانی دور نہ ہو برابر ایسا کرتا رہے دعا یہ ہے

اللَّهُمَّ اِنَّا لَسُئَعِيْنُكَ وَكُسُفِيْعُكَ بِاَيِّمٍ يَحْيٰى بِنَ ذِكْرِ يَا اَمَّا لِي
بَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ لَعَبْدُ وَاِيَّاكَ لَسُئَعِيْنُ ۝

حادثات سے بچنے کا وظیفہ

حضرت طلق فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت ابوالدرداءؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کا مکان جل گیا۔ فرمایا نہیں جلا پھر دوسرے شخص نے یہی اطلاع دی تو فرمایا نہیں جلا پھر تیسرے آدمی نے یہی خبر دی آپ نے فرمایا نہیں جلا پھر ایک اور شخص نے آکر کہا کہ ایک ابوالدرداء آگ کے شرارے بہت بلند ہوئے مگر جب آپ نے مکان تک آگ پہنچی تو بجھ گئی فرمایا مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا۔ (کہ میرا مکان جل جائے) کیوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات پڑھ لے شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی میں نے صبح یہ کلمات پڑھے تھے اس لئے مجھے یقین تھا کہ میرا مکان نہیں جل سکتا۔ وہ کلمات یہ ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكُرْسِيِّ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ
لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ

شَيْءٍ عِلْمًا ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ
مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَمِنْ شَرِّ کُلِّ دَاۤبَّةٍ
اَنْتَ اَخِذُ بِنَاصِیَتِهَا اِنَّ رَّبِّیْ عَلٰی
صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝

قنوت نازلہ

مولانا بنوری فرماتے ہیں آج کل یہ دعا قنوت نازلہ نماز فجر میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت میں امام صاحب کو جہر سے پڑھنا چاہیے اور مقتدی ہر جملے پر آہستہ سے آمین کہیں۔ (یہ دعا ہر مشکل وقت میں پڑھی جاسکتی ہے)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِیْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا
فِیْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِیْمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لَنَا فِیْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ
مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِیْ وَلَا یُقْضٰی
عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا یَذِلُّ مَنْ وَّالَیْتَ
وَلَا یَعِزُّ مَنْ عَادَیْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا
وَتَعَالٰیْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَیْكَ
وَصَلِّ اللّٰهُ عَلٰی النَّبِیِّ ۝

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَالْاَيْفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ
بَيْنِهِمْ وَاَنْصُرْهُمْ عَلٰى عَدُوْكَ
وَعَدُوْهِمْ اِلَهَ الْحَقِّ اٰمِيْنٌ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِ الْكُفْرَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ
وَالْيَهُودَ وَالْقَادِيَانِيَّةَ وَالزَّوَافِضَ
وَالْهِنْدُوْسَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ
وَيَكْذِبُوْنَ رُسْلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَآءَكَ
اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ
اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَاسَكَ الَّذِي
لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ
اَللّٰهُمَّ وَلِّ اُمُوْرَنَا خَيْرًا رِّنَا وَلَا تُوَلِّ
اُمُوْرَنَا شَرًا رِّنَا وَاَرْزُقْنَا حُكُوْمَةً صَالِحَةً
عَادِلَةً تَرْغٰى عِبَادَكَ وَبِلَادَكَ عَمَّا
يُوْجِبُ مَقْتَكَ وَغَضَبَكَ وَصَلَّى اللّٰهُ
عَلٰى مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمْ

(عظيمة حضرت مولانا سيد محمد يوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ)

تمام دن ظالموں کے شر سے محفوظ رہیں حضرت انسؓ کی دعا

یہ دعا جناب رسول اللہ ﷺ نے حضرت انس بن مالک کو تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص صبح کو یہ دعا پڑھے تو دن بھر کوئی ظالم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ
الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
بِسْمِ اللّٰهِ عَلَى نَفْسِي وَدِينِي بِسْمِ اللّٰهِ
عَلَى أَهْلِي وَمَالِي بِسْمِ اللّٰهِ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ رَبِّيَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ آخَافٍ وَأَحْذَرُ
اللَّهُ رَبِّيَ لَا أَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا عَزَّ جَارُكَ
وَجَلَّ شَأْنُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاءُكَ وَلَا
إِلَهَ غَيْرُكَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ
عَيْنِيٍّ وَشَيْطَانٍ مَّرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ قَضَاءِ
السُّوءِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ
بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّيَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

دعاء امام ابو حنیفہؒ برائے قرب الی اللہ

امام ابو حنیفہؒ نے اللہ تعالیٰ کو سو بار خواب میں دیکھا جب سوویں مرتبہ خواب میں دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ تیرے بندے تیرا قرب حاصل کرنے کیلئے کیا پرہیز تو یہ دعا اللہ رب العزت نے خواب میں بتلائی:

سُبْحَانَ الْأَبَدِيِّ الْأَبَدِ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ
الْأَحَدِ سُبْحَانَ الْفَرْدِ الصَّمَدِ سُبْحَانَ
رَافِعِ السَّمَاءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ سُبْحَانَ مَنْ
بَسَطَ الْأَرْضَ عَلَى مَاءٍ جَمَدٍ سُبْحَانَ
مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ فَأَخْصَاهُمْ عَدَدًا

اگر کوئی برے افعال کا شکار ہو جائے

جو دین سے غافل ہو سیدھے راستے سے بھٹک جائے یا برے افعال میں مبتلا ہو جائے تو اس کو پانی پر ۱۰ بار پڑھ کر دم کر کے ۳۱ دن تک پلائیں۔

أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ، آيَةُ ۵)

عزت و عظمت میں اضافہ کیلئے

اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی مقبولیت عزت و عظمت اور شان و بزرگی کی لوگ قدر کریں اور اسے عزت دیں تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عشاء روزانہ پابندی کے ساتھ اول تین بار درود شریف پڑھے اس کے بعد ۹۴ بار یا عزیز پڑھے اس کے بعد ۳ بار یہ پڑھے:

يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ

آخر میں ۳ بار درود شریف پڑھ کر اپنی عزت و عظمت میں اضافے کی دعا کرے۔ چند نیت کرنے کے بعد انشاء اللہ اس کی عزت و عظمت میں اضافہ ہو جائے گا۔

عزت پانے کیلئے

اگر کوئی شخص لوگوں کی نظروں سے گر گیا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کی عزت قائم ہو جائے تو وہ اس آیت کو ۱۱ بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لے۔

فَسُبْحَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ

شَيْءٍ ۖ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

(سورہ یٰسین آیت ۸۳)

تمام پریشانیوں کیلئے اکسیر

روزانہ وقت مقررہ پر ۲۱ بار پڑھیں

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَاَعُوْذُبِكَ

مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ

غَلَبَةِ الدِّیْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

نماز مغرب کے بعد یہ پڑھے

حضرت مسلم تمیمیؒ نے رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے کہ نماز مغرب سے فارغ ہو کر کسی سے بات کرنے سے پہلے سات مرتبہ یہ کہہ لو

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ

اور پھر اگر اسی رات کو تمہاری موت آگئی تو دوزخ سے محفوظ ہو جاؤ گے اور اگر اس دعا کو سات بار نماز فجر کے بعد کسی سے بات کئے بغیر کہہ لو گے اور اسی دن مر جاؤ گے تو دوزخ سے

محفوظ رہو گے۔ (ابوداؤد، نسائی، ابن حبان)

نماز عشاء کے بعد یہ پڑھے

عشاء کی نماز کے بعد سورہ الملک پڑھنا چاہیے

جو مانگے وہ عطاء ہو

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ حضرت سرہ بن جندبؓ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے کئی بار سنی اور حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے بھی کئی بار سنی ہے میں نے عرض کیا ضرور سناؤں۔ حضرت سرہؓ نے فرمایا جو شخص صبح اور شام یہ پڑھے

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنْتَ تَهْدِينِي
وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي وَأَنْتَ تَسْقِينِي
وَأَنْتَ تُبَيِّتُنِي وَأَنْتَ تُحْيِينِي ❀

اور اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ (الطہرانی فی الاوسط باسناد حسن، مجمع الزوائد)

بڑا نور حاصل کرنے کیلئے

حافظ ابوبکر بزازؒ اپنی کتاب میں لائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس آیت کو رات کے وقت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا نور عطا فرمائے گا جو عدن سے مکہ شریف تک پہنچے:

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

موت کے سوا ہر چیز سے امن

مسند بزار میں حدیث ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تم بستر پر لیٹو اور سورہ فاتحہ و اخلاص پڑھ لو تو موت کے سوا ہر چیز سے امن میں رہو گے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۲)

جمعہ کی نماز کے بعد گناہ معاف کروانے کا ایک

نبوی نسخہ

جو آدمی جمعہ کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھے گا

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ

تو حضرت محمد ﷺ نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے کے ایک لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور اس کے والدین کے چوبیس ہزار گناہ معاف ہوں گے۔ (رواہ ابن السنی فی عمل الیوم والیلة ص ۲۳۳)

حصول ملازمت کیلئے سورہ الضحیٰ کا خاص عمل

سورہ الضحیٰ کو عالمین نے پرتا شیر مانتا ہے اس میں نو مقام پر کاف (ک) آیا ہے آپ نماز فجر کے بعد وہیں بیٹھیں اور یہ سورہ اس طرح پڑھیں کہ جب کاف آئے تو یا کریم نو بار پڑھیں یہ عمل صرف نوایام کریں ملازمت ملے گی۔ اگر خدا نخواستہ ملازمت نہ ملی تو یہ عمل اتھارہ بار پڑھیں اگر پھر بھی حاجت پوری نہ ہو تو ستائیس بار پڑھیں اور ہر کاف پر ستائیس بار یا کریم پڑھیں بفضل خدا شرطیہ ملازمت مل جائے گی۔ (شرعی علاج بحوالہ خزانہ اعمال ص ۱۱)

لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو یا آتا ہو مگر پسند نہ آتا ہو

رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیْرٌ

(سورہ القصص ۲۲)

فائدہ: اگر آپ کی لڑکی کیلئے رشتہ نہ آتا ہو یا آتا ہو مگر پسند نہ آتا ہو تو آپ ۱۱۴ بار اس

آیت کو پڑھیں اور تین بار سورہ والضحیٰ پڑھیں اور یہ عمل ہر مہینہ کے شروع میں ۱۱ دن تک کریں اور تین مہینہ تک جاری رکھیں۔ انشاء اللہ اچھا رشتہ نصیب ہوگا۔

سانپ بچھو کے کاٹے کا علاج

جس کو سانپ بچھو وغیرہ زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہو اس پر سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے یا پانی اور نمک ملا کر جس جگہ کاٹا ہے ملتا جائے اور سورہ کافرون، سورہ قلق، سورہ الناس پڑھ کر دم کرتا جائے۔

فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ:

ایک مرتبہ نماز میں بچھو نے آپ کو کاٹ لیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا خدا لعنت کرے بچھو پر نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ بے نماز کو پھر آپ ﷺ نے نمک اور پانی منگوا یا آپ کاٹنے کی جگہ پر ملتے جاتے اور مذکورہ بالا تینوں سورتوں کو پڑھتے جاتے تھے۔ (طبرانی فی الصغیر بحوالہ حصن حصین)

شب قدر کی پہچان کا طریقہ

شیخ محی الدین ابن عربی علیہ السلام القدر کی پہچان میں فرماتے ہیں کہ اگر پہلا روزہ جمعہ کے دن کا ہو تو لیلة القدر ۲۹ ویں شب ہوگی، اگر ہفتہ کا ہو تو ۳۱ ویں، اگر اتوار کا ہو تو ۲ ویں، اگر پیر کا ہو تو ۱۹ ویں، اگر منگل کا ہو تو ۲۵ ویں، اگر بدھ کا ہو تو ۱ ویں اور اگر جمعرات کا ہو تو ۱۰ ویں کے بعد کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوگی۔ (الکفر المدفون ص ۳)

حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی اپنے ایک رسالہ میں لکھتے ہیں کہ اگر یکم رمضان اتوار کو ہو تو شب قدر ۲۹ ویں شب ہوگی، اگر پیر کو ہو تو ۳۱ ویں، منگل کو ہو تو ۲ ویں، بدھ کو ہو تو ۱۹ ویں، جمعرات کو ہو تو ۲۵ ویں، جمعہ کو ہو تو ۱ ویں اور اگر ہفتہ کو ہو تو ۲۳ ویں شب ہوگی۔

ہر سال حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کیلئے خاص عمل

طواف واداع کے بعد میزاب رحمت کے نیچے دو رکعت صلوٰۃ الحاجت پڑھ کر سامنے کعبہ کی

دیوار پر انگلی سے یہ آیت لکھیں

إِنَّ إِلَهِي فَرَحٌ عَلَيْكَ الْفَرَّانُ لَوَ آذَكَ إِلَى مَعَادٍ

اس کے بعد دعا کریں کہ حق تعالیٰ ہر سال حاضری اور حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائیں۔
اس کے بعد گھر پہنچ کر صلوٰۃ الحاجت دو رکعت پڑھیں اس کے بعد سورہ یٰسین کی تلاوت کریں اور
ہر مہینہ پر سات بار سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہر سال حج
کی سعادت عطا فرمائیں۔ انشاء اللہ ہر سال حاضری نصیب ہوگی۔ (اکابر علماء دیوبند کا مجرب
عمل ہے۔ جو حضرات قارئین یہ عمل کریں لکھنے والے کو بھی اس دعا میں شامل فرمائیں۔)

برائے زیارت نبی کریم ﷺ

جو شخص خواب میں حضرت نبی کریم ﷺ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہے تو اس کو
چاہیے کہ دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو بار سورہ اخلاص پڑھے جب
نماز سے فارغ ہو جائے تو اس دعا کو ۷ بار پڑھے:

انشاء اللہ تعالیٰ وہ زیارت سے مشرف ہوگا۔ اس عمل کو پڑھنے کے وقت ان باتوں کا لحاظ
رکھنا نہایت ضروری ہے جسم پاک ہو کپڑے پاک ہوں بستر پاک ہو اور عطریات سے ہر چیز کو
بسائے اور اس کو منگل کا دن ختم ہو کر بدھ کی شب سے شروع کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ پہلی ہی شب
میں ورنہ تین راتوں میں ضرور زیارت سرور کو نمین ﷺ سے مشرف ہوگا۔ مجرب ہے۔

آیت قطب کے عجیب و غریب اوصاف

۱۔ جو شخص بعد نماز فجر روزانہ چالیس بار پڑھے جو کچھ چاہے حق سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔
۲۔ جس کسی کو بادشاہ یا امیر سے کوئی کام درپیش ہو اور مشکل نظر آوے دو رکعت نماز نفل ادا کر کے
مصلے پر تین بار یہ آیت پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے منہ پر پھیرے مراد برآوے۔
۳۔ جس کسی پر دیو، جن، پری، آسیب کا اثر ہو یا میں کان میں یہ آیت پڑھ کر دم کرے انشاء
اللہ اثر جاتا رہے گا۔

۴۔ بچھو کے کائے ہوئے پر اس کے سیدھے کان میں پڑھ کر پھونک مارے انشاء اللہ صحت پائے گا۔

۵۔ جو شخص کسی مہم یا جنگ کیلئے پندرہ تیر و مرتبہ پڑھے انشاء اللہ فتح پائے گا۔

۶۔ جو شخص چار بار پڑھ کر دشمن کے گھر پر پھونک مارے دشمن کا گھر خراب ہو جائے گا۔

- ۷۔ جو شخص دشمن پر غالب آنا چاہے ۱۲ بار پڑھے انشاء اللہ دشمن مطیع ہو جائے گا۔
 ۸۔ جو کوئی سات بار پڑھ کر کسی مجلس میں آوے مجلس والے تعظیم سے پیش آئیں۔
 ۹۔ جو کوئی نو درم شہد اور دو درم دکھنی مرچوں پر دم کر کے کھائے قوت باہ زیادہ ہووے۔
 ۱۰۔ جو کوئی روزانہ ہزار بار پڑھے گا روزی زیادہ ہوگی۔ غیب سے رزق پہنچے گا۔
 ۱۱۔ اگر گھوڑا شرارت کرے تو تین بار پڑھ کر دم کرے۔

آیت یہ ہے:

ثُمَّ انْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمْنًا نَّعَاسًا يُغْنِي عَنْكُمْ
 وَطَأْنَةً قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
 الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ
 كُلَّهُ لِلّٰهِ يُخْفُونَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُولُوْنَ لَوْ
 كُنَّا لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هِهْنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ يَبُوْنَكُمْ
 لَكَرَّرَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْلِيَ اللّٰهُ مَا
 فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيَسْمَحَنَّ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ
 الصُّدُوْرِ

دعا کی قبولیت کیلئے مجرب عمل

مشائخ و علماء نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو ایک ہزار مرتبہ جذبہ ایمان اور انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ رو نہیں فرماتا۔
 ہجوم افکار اور مصائب کے وقت اس کا پڑھنا مجرب ہے۔

وظیفہ خاص حضرت شاہ ابرار الحق

اول آخردرد شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد آیت
 حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ درج ذیل مقاصد میں سے جس کیلئے
 پڑھیں کامیابی ہوگی۔

- ۱۔ حفاظت از شر و روفتن کیلئے ۳۳۱ بار پڑھیں۔
- ۲۔ برائے وسعت رزق و ادائے قرض ۳۰۸ بار پڑھیں

۳۔ برائے تکمیل خاص کام ۱۱ بار پڑھیں
 ۴۔ برائے کفالت از مصائب و پریشانی ۱۴۰ بار پڑھیں
 (بیان فرمودہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب)

نظر بد دور کرنے کا مسنون وظیفہ

ابن عساکر میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور ﷺ کے پاس تشریف لائے آپ اس وقت غمزدہ تھے سبب پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا حسن و حسین کو نظر لگ گئی ہے۔ فرمایا یہ چائی کے قابل چیز نظر واقعی لگتی ہے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھ کر انہیں پناہ میں کیوں نہ دیا؟ حضور ﷺ نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ فرمایا:

اَللّٰهُمَّ ذَا السُّلْطٰنِ الْعَظِيْمِ وَالنِّ
 الْقَدِيْمِ ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيْمِ وَلِيَّ
 الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَالدَّعَوَاتِ
 الْمُسْتَجَابَاتِ عَافِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ
 مِنْ اَنْفُسِ الْجِنِّ وَاَعْيُنِ الْاِنْسِ ❀

حضور ﷺ نے یہ دعا پڑھی تو اسی وقت دونوں بچے اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے سامنے کیلئے کودنے لگے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا لوگو! اپنی جانوں کو اپنی بیویوں کو اور اپنی اولاد کو اسی پناہ (دعا) جبرائیل کے ساتھ پناہ دیا کرو اس جیسی اور کوئی پناہ کی دعا نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۴۱۶)
 فائدہ: اول آخر درود شریف پڑھ کر مذکورہ بالا دعائیں مرتبہ پڑھیں اور مریض پر دم کریں
 عمل ایک مجلس میں تین بار کریں۔ دعا کے اندر جہاں حضرت حسن و حسین کا نام ہے ان کی جگہ پر موجود مریض کا نام لیں۔ مثلاً عافِ الطَّافِ مِنْ اَنْفُسِ الْجِنِّ وَاَعْيُنِ الْاِنْسِ

خیر و برکت کیلئے

جمعرات کے دن با وضو اس آیت کو لکھ کر مکان یا دکان کے دروازے پر لگانے سے
 خیر و برکت ہو۔

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

جو شخص جمعہ کے دن بعد عصر آیت الکرسی ۳۱۳ بار پڑھے تو ایسی خیر و برکت ہو کہ جس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔

بعد فراغت نماز جمعہ اس آیت کو لکھ کر مکان یا دکان میں رکھنے سے خیر و برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. قَلِيلًا مَّا
تَشْكُرُونَ

یہ آیت سب کے گھرے پر لکھ کر خزانہ میں رکھ دے انشاء اللہ بہت برکت ہوگی۔
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

کشائش رزق کیلئے

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ أَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ

جو شخص بعد نماز جمعہ پاک و صاف ہو کر پینتیس مرتبہ یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے خدا تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔

جنتی تعویذ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ تعویذ بطور حضور ﷺ کے معجزہ کے نقل کیا ہے فرماتے ہیں جب حضرت آمنہؓ کے بطن مبارک میں آنحضرت ﷺ منتقل ہوئے تو حضرت آمنہؓ کو خواب میں کچھ فرشتے نظر آئے انہوں نے حضرت آمنہؓ کو عرض کیا آپ کو ساری کائنات میں سے افضل ترین ذات گرامی کا حمل ہے جب آپ ان کو جنیں تو ان کا نام محمد رکھنا اور سونے کے طہاق میں ایک تعویذ رکھا ہوا پیش کیا کہ یہ ان کو ولادت کے بعد پہنادیں۔ اس تعویذ کو امام بیہقی نے اور امام ابو نعیم اصبہانی نے اپنی اپنی دلائل النبوة میں اور ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اور علامہ سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ ہم اس تحفہ خاص کو اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم نے خود بھی اس کو بہت سے مقاصد میں استعمال کیا اور کرایا ہے تیر بہدف پایا ہے۔ ایک شخص کو اولاد نہ دینے کیلئے دیا تھا اور ہدایت کی تھی کہ عورت کو امید ہونے کے بعد بچہ کے اعضاء

جسمانی بننے سے پہلے پہلے اس کو کمر میں اس طرح پہنائیں کہ تعویذ ناف پر رہے انشاء اللہ مینا پیدا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ایک دن آکر بیٹے کی ولادت کی خبر سنائی۔ یہ تعویذ میرے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی کے معمولات میں سے تھا آپ اس کو ہر مقصد میں استعمال کراتے تھے اور اس مقصد کے مطابق طریقہ استعمال تجویز کرتے تھے۔ تعویذ یہ ہے۔

اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد و کل خلق راند من قائم
و قاعد عن السبیل عائد علی الفساد جاہد من نافث او
عاقد و کل خلق مارد یاخذ بالمرصاد فی طرق الموارد
انہا ہم عنہ باللہ الاعلیٰ و احوطہ منہم بالید العلیا و الکف
الذی لا یری یداللہ فوق ایدیہم و حجاب اللہ دون عادیہم
لا یطر دودہ ولا یضروہ فی مقعد ولا منام ولا مسیر ولا مقام
اول اللیالی و آخر الايام

فائدہ: یہ تعویذ جنات، جادو اور شر دشمنان کو دور کرنے کیلئے بھی خاص چیز ہے۔

شب قدر کے برابر ثواب

قرآن کریم کی رو سے شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ایک ہزار مہینوں میں تیس ہزار راتیں ہوتی ہیں اور سالوں کی تعداد تو اسی سال چار ماہ بنتی ہے جو محض حق تعالیٰ کا انعام ہی انعام ہے اور چونکہ ان کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے اسلئے اگر وہ کسی اور عمل پر بھی شب قدر کا ثواب دے دیں تو ان کے خزانہ رحمت میں کچھ کمی نہیں آتی۔ چنانچہ درج کلمات تین مرتبہ کہنے سے شب قدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ بھی یاد کر لیں اور یہ ثواب حاصل کریں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ
اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ

(کنز العمال، ص ۲۲۶، جلد ۲)

چار کلمے بہت بڑھے ہوئے ہیں

حضور اکرم ﷺ ایک دن نماز فجر کیلئے تشریف لے گئے تو ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دعا پڑھنے پر بلایا کہ ہاں صبح سے یہیں بیٹھی ہوں آپ ﷺ نے خوش ہو کر ایک وظیفہ بتایا کہ میں نے پاس سے جانے کے بعد یہ چار کلمات کہے ہیں اگر تیرے سارے وقت کے وظیفے سے تو لے جائیں تو یہ بڑھ جائیں وہ یہ ہیں:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا
نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ (مُسْلِم)
ذاتی مکان اور وسعت رزق کیلئے

اگر آپ کے پاس رہنے کی جگہ یا مکان نہ ہو یا روزی کا ذریعہ نہ ہو یا رزق سے تنگی ہو یا مسافرت ہو اور سامان آپ کے پاس کوئی نہ ہو تو مذکورہ آیت کو ۱۵ بار روزانہ پڑھ لو جب تک کامیابی نہ ہو انشاء اللہ کامیابی ہوگی۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ
فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ❀
اولاد نرینہ اور حفاظت حمل کیلئے
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ
لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ❀

اگر آپ کے یہاں اولاد نرینہ نہیں ہے تو حمل ٹھہرتے ہی نو مہینے تک ۱۱ بار روزانہ پڑھئے۔
رزق کی تنگی کو دور کرنے کیلئے بھی اس دعا کو روزانہ سات مرتبہ پڑھئے۔

شیخ الاسلام امام ابن القیمؒ اپنی کتاب
 ”زاد المعاد فی ہدی خیر العباد“
 میں ایک حدیث بیان فرماتے ہیں کہ
 حضرت ابوخرزائمہؓ سے

مروی ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے دریافت کیا
 کہ ”آپ کی رائے جھاڑ پھونک، دوا اور
 بیماری سے بچنے کی دوسری تدبیروں کے
 بارے میں کیا ہے؟ کیا ان سے
 خدا کی تقدیر ٹل سکتی ہے؟“
 حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا
 کہ ”یہ بھی تو خدا کی تقدیر ہے۔“

رزق میں
برکت اور
حاجات کیلئے
اعمال

عمل سورہ منزل شریف

پہلا طریقہ: فجر کی نماز کے بعد سورہ منزل ایک دفعہ پڑھنے کا ورد رکھے اور ان چار آیتوں کو تین تین دفعہ پڑھا کرے۔

اول: رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

دوم: وَاللَّهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

سوم: يَسْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

چہارم: وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

جب تمام ہو جو حاجت چاہے برآوے

دوسرا طریقہ: جس وقت اس سورہ مبارکہ کو کسی مہم اور کسی حاجت کیلئے پڑھے تو اس

ترکیب سے پڑھے کہ پڑھتے پڑھتے رَبُّ الْمَشْرِقِ سے وَكِيلًا تک پڑھ کر حَسْبِيَ اللَّهُ

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ سومر تہ پڑھے اور جب وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پر پہنچے تو اسی

پورے جملہ کی سو بار تکرار کرے اس ترکیب سے ۳ بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھے اس کے بعد

یا معنی یا معطی کو گیارہ سو بار پڑھے اول و آخر یہ درود شریف پڑھے

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی

اِبْرٰهِيْمَ وَّ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

گیارہ گیارہ بار اس درود شریف کو پڑھنا چاہیے۔ جب پڑھ کر فارغ ہو جائے تو سجدہ میں

جا کر اپنا مقصد اللہ تعالیٰ سے طلب کرے اور اگر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو تو سجدہ میں دعا

کرتے وقت اس طرح دعا مانگے:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قَلِّبْ قَلْبِيْ اِلَيْكَ (یعنی فلاں بن فلاں) مِنْ

رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ

تیسرا طریقہ: فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں ایک مرتبہ سورہ منزل شریف

پڑھے اور جب فرض ادا کر چکے تو دو بار اور پڑھے اسی طرح ہر نماز کے بعد دو مرتبہ پڑھا

کرے۔ اس طرح اس کی تعداد کل گیارہ بار ہوگی۔ اول آخر درود شریف تین تین بار یا پانچ

پانچ بار یا گیارہ گیارہ بار پڑھے۔ اس کا ورد ہمیشہ رکھے انشاء اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی دور ہوگی

اور رزق میں ترقی ہوگی۔

جب کیلئے اسی سورہ مبارکہ کو ۳۱ بار پڑھ کر کسی شیرینی پر دم کر کے کھلائے یا کسی اور چیز پر پڑھ کر دم کر کے پلائے انشاء اللہ مقصد میں کامیابی ہوگی۔

برائے ادائیگی قرض

۱۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب سونے کا ارادہ کرے تب با وضو چپ لیٹ کر اپنے بستر پر آیت انکری ۱۰۷ بار اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے انشاء اللہ تعالیٰ قرض ادا ہو جائے گا۔

۴۰ روز اس کو پڑھے

۲۔ عشاء کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر سورہ نصر (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ) کو ۳۱ بار ۳۱ روز تک برابر پڑھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ قرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ مجرب و اکسیر ہے۔ اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھیں۔

روزی میں برکت کیلئے نبوی نسخہ

جو آدمی گھر میں داخل ہو کر سلام کرے چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو روزی میں برکت پائے۔ (حسن حصین)

الْمُعْطٰی هُوَ اللّٰهُ کاسریع الاثر عمل

جو شخص چاہے کہ روزی کی تنگی دور ہو اور رزق خوب فراخی سے نصیب ہو اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ جمعہ کی نماز فرض کے بعد بحالت تشہد قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے ستر بار توجہ کے ساتھ پڑھے

الْمُعْطٰی هُوَ اللّٰهُ اول و آخر سات بار درود شریف

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ وَالْاَمْسِنُوْنَ وَمَجْرِبِ عَمَلِ

جو شخص جمعہ کے دن ستر بار یہ دعا پڑھے عجیب تاثیر دیکھے دو جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ قرض کی ادائیگی اور روزی میں برکت کے اثرات ظاہر ہوں۔ اول و آخر سات سات بار درود شریف

ایک اکسیر عمل

روزانہ پانچ سو بار **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** پڑھیں روزی کے دروازے کھل جائیں گے۔
روایات سے ثابت ہے کہ اس کلمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو روزی عطا فرماتے ہیں۔

سورہ فلق کا لا جواب عمل

جو شخص کثرت سے سورہ فلق پڑھے گا اس پر روزی انشاء اللہ بارش کے قطروں کی طرح
بر سے گی۔ یقین اور توجہ شرط ہے۔

یا غنی یا مغنی کا مجرب عمل

فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان گیارہ سو مرتبہ **یا غنی یا مغنی** پڑھیں روزی کا مسئلہ
انشاء اللہ حل ہو جائے گا۔ اول آ خر طاق عدد میں درود شریف

روزی کا اصل الاصل عمل

مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کا معمول بنائیں اور روزی کے معاملے میں قدرت الہی
کا مشاہدہ دیکھیں۔

روزی میں فراخی کیلئے مجرب ترین تر پھلا

تین کام کر لیں اور روزی کے متعلق بے فکر ہو جائیں اور حاسدوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی
پناہ مانگیں۔

الف: رازق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو مانیں اور دل میں کسی اور کے بارے میں یہ
خیال تک نہ آنے دیں کہ میری روزی اس کے ہاتھ میں ہے۔

ب: دو رکعت پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کریں کہ کبھی حرام روزی کو اختیار
نہیں کریں گے۔

ج: تھوڑا یا زیادہ جتنا مال اور رزق ملے اس میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حصہ
نکالیں اور اسے نہایت خوشدلی سے فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کریں۔

روزی میں برکت کا ایک فطری عمل

کھانے پینے کی اشیاء اور روزی کی دیگر چیزوں کو ضائع نہ کریں۔ دسترخوان پر بچے ہوئے ٹکڑے کھالیں اور پلیٹ کو اچھی طرح صاف کریں اور جو رزق ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس عمل کی برکت سے روزی کے دروازے بھد اللہ کھل جاتے ہیں اور تنگی دور ہو جاتی ہے۔

برائے ترقی رزق

- ۱۔ جو شخص فجر یا عشاء کی نماز کے بعد **بَعْدَ الطَّيْفِ** کو ۱۱۹ بار پڑھے پھر ۱۱۹ بار یہ آیت کریمہ ”اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرِّزْقُ ذُو الْفَوْزِ الْمُنْتَهٰی“ پڑھے اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف انشاء اللہ غیب سے رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔
- ۲۔ جو شخص چاہے میری عمر زیادہ ہو جائے اور دشمنوں پر فتح پائے اور رزق میں ترقی ہو اور مردہ سے عذاب دور ہو جائے پس صبح و شام یہ دعا تین بار پڑھے:
- ۳۔ یہ عمل ترقی رزق کیلئے مجرب ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ۴۵ بار روزانہ پڑھے اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھے
- ۴۔ بعد نماز فجر ۱۰۰ بار اللہ اشہد اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھا کرے انشاء اللہ تعالیٰ رزق زیادہ ہوگا اور قرض بھی ادا ہو جائے گا۔
- ۵۔ سورہ مزمل چالیس روز تک اس ترکیب کے ساتھ مقررہ وقت پر پڑھنا کشائش رزق کیلئے نہایت مفید ہے۔ جگہ بھی متعین ہو تو بہتر ہے۔ پہلے گیارہ بار درود شریف پڑھے پھر گیارہ سو گیارہ بار یا معنی اس کے بعد گیارہ بار سورہ مزمل پڑھ کر کشائش رزق کیلئے دعا کرے پھر گیارہ بار درود شریف پڑھ کر ختم کر دے۔ اگر اس عمل کو اپنا معمول بنالیا جائے تو غیب سے طرح طرح کی امداد ہو۔
- ۶۔ چاندی کی انگوٹھی پر یہ آیت کندہ کرا کے پہننا بہت مفید ہے۔ ایسی جگہ سے رزق ملے کہ وہم و گمان بھی نہ ہو:
- ۷۔ جب گھر میں داخل ہو تو سورہ اخلاص پوری پڑھ لیا کرے انشاء اللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی۔
- ۸۔ سورہ انشراح اور سورہ کافرون کی کثرت خیر و برکت اور کثرت رزق کیلئے نہایت مفید ہے۔

- ۹۔ رمضان شریف کا چاند دیکھنے کے بعد تین مرتبہ سورہ فتح پڑھ لینے سے پورا سال رزق ملتا ہے گا۔
- ۱۰۔ ہر روز گیارہ سو گیارہ بار یا معنی اور چالیس بار سورہ مزمل اگر چالیس بار نہ پڑھ سکے تو کم از کم گیارہ بار پڑھنے سے رزق کثیر ملے۔ محرب ہے۔
- ۱۱۔ نماز چاشت کے بعد روزانہ ۱۰۰ بار یا باسط پڑھنے سے رزق میں فراخی ہوگی۔
- ۱۲۔ نصف رات کے بعد با وضو دو رکعت نماز کشائش رزق کی نیت سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ۱۵ بار سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ۱۵ بار پڑھے پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے ایک ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ہزار بار "يَا فَطْرُ الْأَلْطَافِ اَدْرِ كُنْهُ بِنُطْقِ حُضِيِّ يَابَدْوُحٍ" پڑھ کر دو رکعت نماز پڑھے اور اس کا ثواب سید علی الہمدانی قدس سرہ کی روح کو پہنچائے۔
- ۱۳۔ روزانہ ایک ہزار بار یا حی یا قیوم اور ایک ہزار بار یا وہاب کا پڑھنا کشائش رزق کیلئے نہایت مفید ہے۔
- ۱۴۔ جو شخص یکشنبہ کی پہلی ساعت میں چاندی کی انگوٹھی کے گھینہ پر اس نقش کو کندہ کرا کر پہنے اسے بے پناہ رزق ملے۔

۵۳	۴۶	۵۱
۴۸	۵۰	۵۲
۴۹	۵۴	۴۷

مالی ترقی کیلئے دعا

- ۱۔ جو شخص نماز فجر سے پہلے ۱۰۰ بار یہ پڑھے انشاء اللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی۔
- سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
- ۲۔ جب نیا پھل دیکھے تو یہ دعا پڑھے اس کے بعد اس پھل کو اپنے سب سے چھوٹے بچے کو بٹا کر دیدے۔

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا
وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا

(مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ابی ہریرہ)

جناب حافظ اقبال قریشی کا انٹرویو جو وقت نیوز کے صحافی علی شیر نے لیا

تعارف: حافظ و عالم مولانا محمد اقبال قریشی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم عمری میں بہت سی نادر صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تیس سال کے قلیل عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیک وقت کئی عہدوں پر فائز فرما دیا ہے۔ مولانا محمد اقبال قریشی کے سینے میں دین و دنیا کے علوم کا وسیع خزانہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ ان کے بیانات میں اس علم کے گراں قدر سمندر کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کے قومی حافظے کے باعث اسلام کی تاریخ، صحابہ کی سوانح حیات اور علماء کے حیرت انگیز واقعات سے ان کے شاگرد و مرید ہر وقت فیض یاب ہوتے رہتے ہیں۔ صبح سے رات تک وظائف اور اعمال کی مداومت میں باقی عالمین سے کوئی مقابلہ نہیں ان کے عمل کے فوری اثرات شاید ان کے اعمال پر مداومت اور نیک علماء و بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے ہیں۔ ان کی صحبت میں رو کر بہت سے بے قرار دل سکون پاتے ہیں۔ بہت سے پریشان حال زندگی سے مایوس لوگ اپنے رب سے تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کو مزید علم و عمل میں کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین

حقیقی و کامل عامل کی پہچان

حافظ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ کہ جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی پر جادو یا جنات کا اثر ہو جائے تو اسے صرف قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں سے ہی دور کروانا چاہیے۔ غیر اسلامی اور غیر شرعی طریقہ اور غلط عقیدے والے عاملوں سے عمل کرانا نہایت خطرناک ہے۔

آج کل گلی کوچوں میں ہر جگہ عامل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جن میں سے اکثر تو قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے خدائی دعوے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اپنی اور لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر عامل بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ مریض پر ۳۰۰ جنات کا حملہ ہوا ہے ان میں سے اکثر اس طرح ختم ہوں گے اور باقی اس طرح حالانکہ اصل اثر صرف ایک ہی جن کا ہوتا ہے اور وہ بھی اگر ان جعلی عاملوں کے سامنے آ جائے تو خود ان کے حواس اڑ جاتے ہیں۔

سوال و جواب کی نشست

س: حافظ اقبال صاحب پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ علم کہاں سے سیکھا؟
 ج: الحمد للہ میں نے حفظ قرآن اور عام کورس کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی شروع کیا لیکن والد محترم کی خواہش تھی کہ عامل کا علم سیکھوں چنانچہ ان کے اصرار پر میں نے حضرت پیر مفتی عزیز الرحمن صاحب مدرسہ نصرت العلوم گوجرانوالہ جو کہ بعد میں جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں حدیث کے استاد متعین ہوئے ان سے عمل سیکھنا شروع کیا انہوں نے مجھے ۵ چلے اور سورہ منزل کا چلہ (ہائوکل) اور اجازت بھی عطا فرمائی۔

اس کے علاوہ جاگام کے پہاڑوں پر مصروف عبادت ۱۳۲ سالہ عامل اور عالم حضرت مولانا شاہ محمود صاحب المعروف صندل بابا سے اجازت کا شرف حاصل کیا انہوں نے مجھے حدیث کی سند بھی مرحمت فرمائی۔

س: آپ کے پاس کون کون سے عمل کی اجازت ہے؟

ج: مجھے ان اعمال کی اجازت حاصل ہے۔

ہر قسم کے جناتی اثرات، جادو، نظر بد، بندش، بخار، ہپاٹائٹس، بے اولادی

س: جنات سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟

ج: اگر آپ صبح و شام کی دعائیں روزانہ پڑھیں آیت الکرسی سورہ فاتحہ اور چاروں قل ے بار

روزانہ دم کر کے پئیں تو جنات کے شر سے بچ جائیں گے۔ انشاء اللہ

س: کیا جادو کے ذریعے رشتوں کی بندش ہو سکتی ہے؟

ج: جی ہاں رشتوں کی بندش کے علاوہ کاروبار اور مرد کی بندش بھی کی جاسکتی ہے۔ اس بندش

کے خاتمے کیلئے سورہ مریم روزانہ پڑھنا مجرب عمل ہے۔

س: اولاد دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے کیا اولاد کی بھی بندش کی جاسکتی ہے؟

ج: آپ نے بالکل درست کہا کہ اولاد دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن جادو وغیرہ کے

ذریعے اولاد کی بندش کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی بغیر کسی طبعی بیماری کے اولاد

کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں اصل میں ان پر جادو کی یا جناتی اثرات ہوتے ہیں جب ان

اثرات کو ختم کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ نے

بے اولاد حضرات کیلئے اکسالیس تعویذات کا ایک مجرب ترین عمل منتخب کیا ہے جس کی برکت سے بندش وغیرہ ختم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمادیتے ہیں۔

س: لاعلاج بیماریوں کا علاج آپ کس طرح کرتے ہیں؟

ج: میں لاعلاج بیماریوں کا علاج بارش کے پانی سے کرتا ہوں اس پر ۷ مرتبہ سورہ فاتحہ..... آیت الکرسی..... چہار قل دم کر کے مریضوں کو ۱۱ دن تک پلایا اور ٹہلایا جاتا ہے اور مریض کے سر ہانے سورہ انعام کی ۱۱ دن تک تلاوت کی جاتی ہے اس طرح کیٹسر پپا ٹائٹس اور دوسری بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔

س: ہر حال میں انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے کیا تعویذ و عملیات کروانے سے انسان کا عقیدہ خراب نہیں ہوتا۔

ج: واقعتاً آپ نے درست کہا کہ ہر حالت میں اللہ کو پکارنا چاہیے لیکن یہ خیال غلط ہے کہ تعویذ و عملیات کروانے سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہے دیکھیں میں ہر مریض کو پڑھنے کیلئے وظائف بھی بتاتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ نماز وغیرہ کی پابندی کریں۔ ہماری پریشانیوں کی اصل وجہ اللہ سے دوری ہے۔ نیز تعویذ و عملیات اگر آیات قرآنی اور مسنون دعاؤں سے ماخوذ ہوں تو ان کے برحق ہونے کی دلیل حدیث سے بھی ملتی ہے۔

س: کیا جناتی و دیگر اثرات ختم کرنے کیلئے مریض کا سامنے ہونا ضروری ہے؟

ج: جناتی و دیگر اثرات ختم کرنے کیلئے مریض کا سامنے ہونا زیادہ بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ میرے بہت سے مریض بیرون ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں الحمد للہ مریض کے سامنے آئے بغیر اسکے نام، اسکی والدہ کا نام اور مکمل ایڈریس لے کر مرض کے بارے میں مکمل بتا دیتا ہوں اور پھر کوئی بھی اثر ہو اس کو یہیں سے ختم کر دیتا ہوں۔

س: کیا جناتی اثر سے جسمانی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں؟

ج: جی ہاں میرے پاس بہت سے مریض ایسے آتے ہیں جو دل میں درد، آدھے جسم کے سن ہو جانے، شدید سر درد، آنکھوں میں تکلیف وغیرہ کی شکایت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کروانے کے باوجود تکلیف سے تڑپ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی ان کے جناتی اثر کو ختم کیا جاتا ہے ان کی بیماری بالکل دور ہو جاتی ہے۔ اس وقت ان مریضوں کی خوشی بیان سے باہر ہوتی ہے۔

س: کیا آپ نے نفسیات کا علم بھی حاصل کیا ہے؟
 ج: نہیں میں نے نفسیات کا علم باقاعدہ حاصل نہیں کیا لیکن الحمد للہ ڈپریشن، شدید ذہنی ٹینشن اور دیگر نفسیاتی مریض شفا پا جاتے ہیں۔ اللہ سے رابطہ قائم کر کے انسان کے بیقرار دل کو سکون مل جاتا ہے اور بہت سی ذہنی پریشانیاں از خود دور ہو جاتی ہیں۔
 جو احباب اپنے روحانی شرعی مسائل (جادو، نظر بد، بندش اور جناتی اثرات وغیرہ) کیلئے حافظ اقبال صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہوں وہ درج ذیل مقامات پر طے شدہ اوقات میں رابطہ کر سکتے ہیں:

جامعہ ام حبیبہ زمان سٹریٹ جھامرو مورگاہ	بروز جمعہ اتوار
دارالعلوم مدنیہ مغل برادری قبرستان، نزد ہولی فیلڈ ہسپتال	بروز بدھ
ہر ماہ کی پہلی جمعرات	لاہور
ہر ماہ کی آخری جمعرات	کراچی

برائے رابطہ: 0300-5802404

E-mail: saleheen@gmail.com

☆☆☆☆☆☆☆☆

پرنسپل جامعہ ام حبیبہ کے قلم سے

اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور نبی اکرم ﷺ کی احادیث مبارکہ میں جیسا کہ ہماری آخرت کی بھلائی ہے اسی طرح ہماری دنیا کی بھلائی اور دنیاوی حاجات و ضروریات کے پورے ہونے کی ضمانت بھی موجود ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کو شفا قرار دیا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

حضور اکرم ﷺ کے ہم پر جو بے شمار احسانات ہیں ان میں سے ایک بڑا احسان آپ کی وہ پُر نور دعائیں ہیں جن میں زندگی کے ہر گوشہ، ہر ضرورت اور ہر بھلائی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ہر عمل کیلئے دعائیں گئی ہر مصیبت سے نجات کیلئے وظیفہ سکھایا گیا اور ہر مقام کی مناسبت سے ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ دعائیں مستقل معجزات اور دلائل نبوت ہیں ان دعاؤں اور اوراد و وظائف

کی اہمیت کے پیش نظر حافظ اقبال قریشی صاحب نے انہیں مستقل کتاب کی صورت میں جمع فرمایا ہے۔

انسانی امراض کی دو اقسام ہیں:

(۱) جسمانی امراض (۲) روحانی یا قلبی امراض

جسمانی صحت کا دار و مدار قلب یعنی دل کے صحیح ہونے پر ہوتا ہے اس لئے قلبی و روحانی صحت جسمانی صحت کیلئے نہایت ضروری و لازمی ہے۔ صحت و عافیت اور تمام امراض سے حفاظت ہر انسان کی طبعی خواہش ہوتی ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر انسان نہ اطاعت رب کی کامل قدرت رکھ سکتا ہے اور نہ اپنے ذاتی معاملات نبھا سکتا ہے۔ لہذا شرعی دعاؤں اور عبادات میں بھی یہی امر مطلوب ہوتا ہے اور عبادات کی ادائیگی اور شریعت کے منع کردہ امور سے اجتناب کے بعد ان امور سے صحت و عافیت کی تحقیق میں رہنا بہترین نیکی ہے۔

جامعہ ام حبیبہ ایک ایسی دینی، علمی و تربیتی درس گاہ ہے جس میں نہ صرف علوم نبویہ سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاق و عادات کی تربیت کی جاتی ہے بلکہ جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ جناتی یا جادوئی اثرات مولانا اپنے عمل کے ذریعے زائل کرتے ہیں و طائف، تعویذات اور عمل کا یکجا اثر یہ ہوتا ہے کہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔

اس وقت علوم دینیہ کے مدارس کا وجود مسلمانوں کیلئے بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں اگر اسلام کی ہقاء کی کوئی صورت ہے تو یہ مدارس ہیں۔ کیوں کہ اسلام نام ہے خاص عقائد و اعمال کا جس میں دیانت، معاملات و معاشرت اور اخلاق سب داخل ہیں اور ظاہر ہے عمل علم پر موقوف ہے۔ آپ بھی اپنی بچیوں کو دینی مدارس کی فضا میں بھیجیں تاکہ علوم دینیہ سے آراستہ ہو سکیں۔ جامعہ ام حبیبہ میں (جو اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے) چار سالہ کورس حفظ، ناظرہ، تجوید اور تفسیر کورس کی تدریس کا اہتمام حیدر اساتذہ کی نگرانی میں کیا جاتا ہے۔ جامعہ کے انتظامی امور اور تعمیر مسجد و مدرسہ میں آپ کی معاونت آپ کیلئے بہترین صدقہ جاریہ اور توشہ آخرت بن سکتی ہے۔

حافظہ ام عبداللہ

(عالمہ وفاق المدارس العربیہ)

M.Sc. Psychology

Roll of Honour 3rd Position

علمی شجرہ میں تفسیر و حدیث کی سند

اچار سے سلسلہ مستند کے تین حصے ہیں
حصہ اول: ہم سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ
تک ہے ہر ایک تعلقہ میں کچھ رہا ہے۔

حصہ دوم: حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر
اصحاب صحاح ستہ تک ہے۔ ہر ایک
شاہ مجدد العزیزؒ نے اپنے شاگردوں کو
ہم سے لے کر ہے۔ ہم نے صرف شاہ ولی اللہؒ
کی بنیادی سند ذکر کر رکھا ہے۔

حصہ سوم: قرصاح ستہ سے لے کر
حضرت علیؒ کے بعد اسلام تک پہنچنا
یہ کہہ رہا ہے۔ ہر عبارت کے ساتھ ہر
سند ذکر رہے ہیں۔ ہم نے صرف شاہ ولی اللہؒ
سے لے کر حضرت علیؒ کی سند بیان کر دی ہے تاکہ
سند سے صرف علیؒ سے لے کر ہم تک نہ ہو۔

سیدنا محمدؐ و آلہٗ و اصحابہٗ وسلم

شیخ ابی ہاشم

طریقین و تاج محمدی

محمد بن ابی ہاشم

محمد بن سید القادر

سیدان بن محمد

شیخ عبدالحق بن عبدالحق

ابو جعفر بن ابی ہاشم شیخ ابو عبد اللہ محمد بن سید بن ابی ہاشم

ابو عبد اللہ محمد بن ابی ہاشم

ابو عبد اللہ محمد بن ابی ہاشم

شیخ ابو جعفر بن ابی ہاشم

شیخ ابو جعفر بن ابی ہاشم

شیخ ابو جعفر بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

ابو جعفر بن ابی ہاشم

ابو جعفر بن ابی ہاشم

شیخ ابو جعفر بن ابی ہاشم

شیخ احمد بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

شیخ حسین بن ابی ہاشم

فقیر العصر مولانا رشید احمد گنگوہی

حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی

حضرت مولانا سید حسین احمد دہلوی

حضرت مولانا خیر محمد چاندھری

حضرت مولانا خیر محمد چاندھری

حضرت مولانا خیر محمد چاندھری

حضرت مولانا خیر محمد چاندھری

حضرت مولانا خیر محمد چاندھری

حضرت مولانا خیر محمد چاندھری

حضرت مولانا خیر محمد چاندھری

حضرت مولانا خیر محمد چاندھری

حضرت مولانا خیر محمد چاندھری

حضرت مولانا خیر محمد چاندھری

حضرت مولانا خیر محمد چاندھری

حضرت شیخ مندل بابا کی طرف سے حافظہ اقبال صاحب کا شکر و سب پرانے تصوف

بسم الله الرحمن الرحيم

شجرہ مبارکہ عالیہ قادریہ غفوریہ محمودیہ

اللہم بجاہ سیدنا و مرشدنا حضرت الشیخ

السید محمود صاحب دامت برکاتہم (مندل بابا)

وبجاہ شیخ المشائخ حضرت الشیخ

ولی احمد قدس اللہ سرہ

وبجاہ شیخ المشائخ حضرت

الشاہ نجم الدین قدس اللہ سرہ

وبجاہ شیخ المشائخ حضرت

اخوند شاہ عبدالغفور قدس اللہ سرہ

وبجاہ شیخ المشائخ حضرت

الشاہ شعیب تور ڈھیروی قدس اللہ سرہ

وبجاہ شیخ المشائخ حضرت

حافظ محمد قدس اللہ سرہ

وبجاہ شیخ المشائخ حضرت

الشاہ صدیق پشونری قدس اللہ سرہ

وبجاہ شیخ المشائخ حضرت

الشیخ جنید پشاوری قدس اللہ سرہ

وبجاہ شیخ المشائخ حضرت

الشيخ احمد ملتاني قدس الله سره
 وبجاه شيخ المشائخ حضرت
 الشاه عالم دهلوي قدس الله سره
 وبجاه شيخ المشائخ حضرت
 الشاه منور قدس الله سره
 وبجاه شيخ المشائخ حضرت
 شاه دوله قدس الله سره
 وبجاه شيخ المشائخ حضرت
 الغوث الاعظم السيد محي الدين عبد القادر
 جيلاني قدس الله سره
 وبجاه شيخ المشائخ حضرت
 الشاه ابوسعيد مخزومي قدس الله سره
 وبجاه شيخ المشائخ حضرت
 الشاه ابوالحسن علي الهنكاري قدس الله سره
 وبجاه شيخ المشائخ حضرت
 خواجه ابوالفرح الطرطوسي قدس الله سره
 وبجاه شيخ المشائخ حضرت
 خواجه عبدالواحد زيد تميمي قدس الله سره
 وبجاه شيخ المشائخ حضرت
 خواجه ابوبكر شبلي قدس الله سره
 وبجاه شيخ المشائخ حضرت
 الشيخ جنيد بغدادی قدس الله سره

وبجاء شيخ المشائخ حضرت
 الشيخ عبد الله سري سقطي قدس الله سره
 وبجاء شيخ المشائخ حضرت
 معروف كرخي قدس الله سره
 وبجاء شيخ المشائخ حضرت
 داود الطائي قدس الله سره
 وبجاء شيخ المشائخ حضرت
 حبيب عجمي قدس الله سره
 وبجاء شيخ المشائخ حضرت
 حسن البصري قدس الله سره
 وبجاء حضرت سيدنا امير المؤمنين
 علي ابن ابي الطالب كرم الله وجهه
 وبجاء حضرت سيدنا ومولانا سيد المرسلين
 خاتم النبيين احمد المجتبي محمد المصطفى
 صلى الله عليه وآله وسلم
 طَهَّرَ قَلْبِي عَنْ سَوَاكَ وَنَوَّرَهُ بِأَنْوَارِ مَعْرِفَتِكَ
 وَوَفَّقَنِي لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ
 الصَّالِحِينَ. (آمين)

في الحديث فاجزئهم في الشروط الثلاثة
محمد بن صالح بن محمد بن صالح بن
 و يجعل فقد استجيز ان في الاخير

٣: التقطت من القمامة، أسبغته من الماء الساخن وادخلته إلى الحمام.

٤: الاجتماعات يمكن التدرج وليس بالضرورة ان المصطلح العشر-

اسماء اللذان رايت في زينة من اهل انا جميعهم العادل لنا فصحوا بعد صلواتها بحت وبن خشي اننا جميعهم قر

مجلس شورای ملی

12

۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”جو شخص دینا شہادۃً لکھو گا اللہ اس کیلئے جنت میں عمل دے گا۔“

جامع مسجد الیاء و جاکم حبیبہ

مورگاہ راولپنڈی..... پاکستان

مختصر حضرات کیلئے صدقہ جاریہ کا بہترین موقعہ

اپنے پیارے والدین اور دیگر مرحومین کے ایصالِ ثواب کیلئے مسجد و مدرسہ کی تعمیر میں حصہ ڈال کر ذخیرہ آخرت بنائیں

مستقبل کے ارادے

عالیشان مسجد..... طالبات کیلئے لائبریری

کمپیوٹر لیب..... دارالافتاء..... دارالاقامہ

ٹیمپوں اور ناداروں کیلئے ویلفیئر ٹرسٹ

اکاؤنٹ نمبر: 01026726 کوڈ 1155

بیرون ملک: UNILPKKA-741

یو بی ایل سپر مارکیٹ براچی اسلام آباد پاکستان

زمان سٹریٹ، جھامرہ، مورگاہ راولپنڈی پاکستان

Cell: 0300-5802404

Muhammad Amir Siddiq

Naleb Khoteeli
Central Mosque Islamabad
Government of Pakistan
Mob: 0307-8222438



محمد عامر صدیقی

آب خلیفہ قرمان
مرکزی جامع مسجد کمال مسجد اسلام آباد
موب: 0307-8222438

Ref

Date

رجسٹر

تاریخ

ملک کے مشہور و معروف روحانی عامل مولانا غلام اقبال نے وطنی و علاقہ العالیین کے سب سے بڑے
مستند و مخلصین کے مستند امور کے مختلف معاملات سے سرسری طور پر دیکھا
ماشاء اللہ خوب محنت سے مستند امور و وظائف جمع کئے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں
کہ فرقہ کرم امدادیت مبالغہ کے وظائف کو زمین کے ساتھ بڑھا جائے تو پھر اس کی تاثیر و
کے نقص و کرم سے ظاہر ہو کر رہتی ہیں اس طرح فرقہ کرم امدادیت مبالغہ میں جو اچھے و اچھے
ہیں ان کے اللہ اللہ تعالیٰ نے خوب تاثیر رکھی ہے امدادیت کی تاریخ اس کے پراثر ہونے کی گواہ ہے۔
معنی و وظائف مبالغہ کی امدادیت سے پریشان حال اور سائل کا شکار مختلف ملکوں کو میں بھی رہا ہے
جس سے لوگوں کو انتہائی نفع ہوا۔ اس لحاظ سے مولانا کو میرے استاد ہونے کا درجہ حاصل ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے امدادیت
بھلے اس کو ذریعہ ہدایت و نافع سادے آمین

محمد امیر صدیقی

10 عادی الثانی 1432ھ

محترم و مکرم: السلام علیکم

کتاب وظائف الصالحین کا ہدیہ پیش خدمت ہے۔ اس قیمتی کتاب میں اسماء الحسنی کے فضائل، منزل (آسیب و سحر سے حفاظت کے لئے قرآنی آیات)، درود شریف سے مشکلات کا حل، متفرق دعائیں، رحمتوں والے اعمال، رزق میں برکت کے اعمال، قرآنی دعائیں، دعاؤں سے بیماریوں کا علاج، سحر و جادو سے حفاظت، قرآنی سورتوں کے فضائل وغیرہ قلمبند کئے گئے ہیں۔

روزمرہ کی عام مشکلات اور روحانی بیماریوں کے حل کے لئے زیر نظر کتاب آج کل کے دور میں ایک اکسیر کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس میں موجود مواد قرآن و سنت سے ماخوذ ہے اور اکابرین کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے روزمرہ کے اوراد و وظائف پر ایک بہترین مجموعہ ہے۔ اپنی مشکلات اور مسائل کے (عند اللہ پسندیدہ) حل کے لئے ہمیشہ قرآن و سنت سے رجوع فرمائیں۔ اس مجموعہ سے جتنی دعائیں بآسانی یاد ہو سکیں کوشش کریں اور فرصت کے لمحات مثلاً سفر میں انتظار کرتے ہوئے پڑھنے کی عادت بنائیں اور دوست احباب کو بھی ترغیب دیں۔ اور اپنے لئے اور پوری امت کے لئے خصوصی دعا کا اہتمام فرمائیں۔

مکتبہ شہید اسلام

متصل مرکزی جامع مسجد (لال مسجد) اسلام آباد

0321-5180613

Email: saaleheen@gmail.com